

# عالیم برندخ

تحریر

آیت‌الله سید عبید حسین دستغیب شیرازی

## عرض مترجم

اسلامی جمہوریہ ایران سے جن کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے پیشہ اپنی افادیت کے لحاظ سے یوراچن رکھتی ہیں کہ انکے ترجم حضرات مولین اور افراد ملت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ لیکن میرے لیے باعثِ حرث ہے یہ بات کہ اپنی روز بروز گرفتی ہوئی صحت پڑھتی ہوئی ضعیفی اور گھصتی ہوئی بینائی کی وجہ سے اب کسی ضمیم کتاب کا ترجمہ ہاتھے میں لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فی الحال شہید مغرب۔ آیۃ اللہ سید عبدالحسین وستغیب کی ایک بہت مختصر کتاب «بیرون خ» کا ترجمہ ہدایہ ناظرین کرتا ہوں۔ مجھے یوراچین ہے کہ اگر تو جبکے سامنے اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہم جیسے ٹنہکاروں کی دنیا وہیں دونوں کی اصلاح میں اس سے پوری مدد ملے گی۔ اور ہم اپنی مجرماں غفلتوں سے آوارہ زندگی کو چھینک بر زخمی انجام سے بچاسکتے ہیں۔ اگر حیات مستعار اور صحت نے کچھ دنوں کا موقع اور دیا تو اذانت اعماق استعان بعض دوسری کتابوں کے ترجیح بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دیں گا۔ ورنہ دعاۓ مغفرت کا امید دار ہوں گا مانع

دالسلام  
عاصی محمد باقر الباقری الجو راسی

## مقدمہ

### عقیدہ معاد آفسر یونیورسٹی کا ہمیک

عقیدہ معاد عقل کا ایک حصہ نیصدہ ہے اور اس کا اعتقاد آفسر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ گذشتہ لوگوں کے حالات اور زمانہ ما قبل تاریخ کے تذکرہوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بعض قبائل زندگی کے فروری وسائل آس خیال سے مردے کے ساتھ دفن کر دیا کرتے تھے کہ آئینہ قیامت کے روز جب یہ مردہ زندہ ہوتا خاص خصوصیات زندگی اس کے پاس موجود ہیں۔

### آسمانی مذاہب کا بنیادی رکن

عقینہ مذہب کے بعد آسمانی مذاہب کا دوسرا رکن عقیدہ معاد رہا ہے، اس کا سبب معلوم ہے کہ یہ مذہب دوں کی دعوت و تسلیخ کی بنیاد مبنی ہے، اعتقاد الوہیت اور خلاصہ یہ کہ ثواب و عقاب اور حسد اکی طرف بارگشت پر قائم ہے، کیوں کہ عقلمند ہوں یا اخلاق یا احکام ہمیشہ مسئلے کا معنوی اور باطنی پہلو صاحبان شریعت کے پیش نظر رہا ہے۔ مقدس دین اسلام نے تمام ادیان میں کامل ترین ہونے کی بنیاد پر اس بارے میں بھی دور رہ سفارشات کی ہیں اور اس قضیے کا معنوی رُخ ایک وسیعہ عالم آخرت کے اعتبارے پیش کرتا ہے۔

موت کو چھوٹی قیامت کا نام دیکھا اُسی وقت سے ثواب و عقاب

کادر واژہ کھلہ ہوا قرار دیتا ہے "اخامت الرِّجْل قامت قیامۃ" نیز قرآن مجید خدا کی طرف بازگشت کو لقا، خدا یعنی موت ہی کے وقت سے یاد دلاتا ہے ملے اور موت کی خواہش کو ادیا کے خدا کی نشانی بتاتا ہے۔ ۳

### موت اور بزرخ کو قریب دیکھنے کی تاثیر

موت کے ساتھ ہی شروع ہونے والی عالم بزرخ کی سزا و جزا اور پادا شش عمل کو اپنے قریب دیکھنے کا شخص کے عقیدے، اخلاق اور عمل پر مشتمل اشریف تر استے ہے۔ کچھ نادان لوگ روز قیامت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود اپنے لا اہمی بن کی جہت سے عذر تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی قیامت تک کیا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ قیامت ہزاروں سال کے بعد آئے میکن جب بزرخ کا سلسہ موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے تو چند سال سے زیادہ نہیں گزرتے گر اس ان اپنے عقائد و اخلاق اور اعمال کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ ۴

۵ اشہدُ انَّ الْمَوْتَ حَقٌّ لَهُذَا اس امر کی طرف پوری تو جو رکھنا چاہئے کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے برخلاف کسی فعل کا اترتکب نہ ہو، کیونکہ بہت سکھ جلد اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔

۶ هُنَّ مَنْ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا تُؤْتَ  
۷ هُنَّ يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ مِنْهُمْ مَا تَكَمَّلَ أَدْلِيَاءُ  
۸ اللَّهُ، مَنْ دُونَ النَّاسَ فَتَمَّنَ الْمَوْتَ إِنْ كَنْتَ مَمْ  
۹ صَلَّى قَيْنَـ سُورَةُ جَمِيعِ آيَتِ مَلَـ

بزرخ کی یاد دہانی میں تہذیب نفس اور اصلاح کا انداز  
شہید بزرگوار آیۃ اللہ سید عبد الحمین دستیغ جو امام امّت  
کے ارشاد کے مطابق معلم اخلاق، تہذیب نفس کے ماہزاد انسانوں کو راہ  
حق دکھانے والے تھے، اصلاح نفوس، لوگوں کو غفلتوں سے ہوشیار کرنے  
اور انھیں گناہوں سے باز رکھنے کیلئے موت اور بزرخ کی سزاوں کی  
یاد دہانی کرانے کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ استفادہ فرماتے تھے۔ اور  
تفصیر یاعقائد یا اخلاق کی بخنوں میں مختلف مذاہبوں کے ساتھ  
عالم بزرخ کی عظمت کا جس کی وسعت اس قدر ہے جیسی اس عالم دنیا  
کی رحم مادر کی تنگی کے مقابلے میں ذکر کرتے تھے اور اس کے ثواب و عقاب  
کی عظمت و بزرگی کے اثرات کو سخن پا پڑھنے والوں کے دلوں میں  
بخوبی نقش کردیتے تھے تاکہ انھیں حقیقی اور لازمی طور سے یقین ہو  
جائے کہ دنیا کی جلد حشم ہونے والی خوشی اور راحت، بزرخ اور  
قیامت کے غیر معقولی رنج و مصیبت کے مقابلے میں کوئی حقیقت  
نہیں رکھتی بلکہ اس کے بر عکس دنیا کے چند روزہ رنج اور رحمت  
کا تحمل و اتعاؤ زدن اور قدر و قیمت رکھتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے  
ایک طولانی راحت و آرام ہے وہ ان حقائق کو سمجھانے کیلئے سادہ  
دلنشیں اور موشر بیانات کے ذریعے متعدد اخبار و آیات اور دلائل  
سے فائدہ اٹھاتے تھے اور عالم بزرخ کے بارے میں ان سچی حکایتوں  
اور حقیقی حالات و واقعات کو ثبوت و شہادت میں پیش کرتے تھے  
جو معتبر کتابوں میں درج ہیں اور افراد کے نقوص اور قلوب پر کما حقد  
اشر انداز ہو سکتے ہیں۔

## ڈرانے اور خوشخبری دینے کے چند نمونے

ڈرانے اور خوف دلانے کے موقع بہر اس مون کی حکایت کا حوالہ دیتے تھے جو بغداد کے ایک بہودی کا کچھ فرضدار تھا اور اس کے نتیجے میں بہودی کی انگلی کی برزخی آگ نے اسے جلا دیا تھا اور وہ متول بستر بیجا نی بپڑا رہا تھا ایسا اس آگ کا جو ظالم کی قبر کو استرچ جلا رہی تھی کوئی سمجھی نہ یہ جان لیا کہ یہ مادی اور دنیاوی آگ نہیں ہے ظالم کو ڈرانے کے لئے ذکر فرمائے تھے۔ خوشخبری کے مقام پر اور اعمال خیر کا شوق پیدا کرنے کیلئے بھی ان اخبار و احادیث اور روایات سے استفادہ فرماتے تھے جن کا ایک نمونہ ہم حضرت پیغمبر نبڑا کی اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ "میں نے حضرت جنہ اور حضرت جعفر طیار کو برزخی بہشت میں برزخی میوں سے لطف اندر ہوتے ہوئے دیکھا۔" اور وہ قیام پیغمبر مسیح جو تمام پیغمبروں سے زیادہ برزخ میں کام آتی ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت، محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صوات بھیجنے، اور پرانی پلانے کو بیان فرماتے تھے۔ اور ان شواہد کا ذکر کرنے کے بعد سُنْنَة یا پُرَصَنَه والوں کو ان نیکپوں کی طرف دعوت دیتے اور رغبت دلاتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اس بزرگوار کے آثار، اور زودا شر اور نصیح و بلیغ بیانات پر غور کرنے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کے حالات میں انقلاب پیدا نہ ہو۔ یہ کتاب جو لذت اور راحت کے سلسلے میں ان شہید بزرگ کے ارشادات کا ایک انتخاب ہے جناب ثقہ الاسلام آفائے حاج شیخ حسن صداقت کے توسط سے مرتب ہوتی ہے۔ اور حب طرح یہ ان بزرگوار کے زماں کی حیات

میں نشر و اشاعت کے کام میں ان کی پر خلوص اعانت کرتے تھا انہی شہزادت کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔  
خدا انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے اور اس طریق کے آثار باقی کو ان کی نشر و اشاعت میں ہاتھ بٹانے والوں کے لیے ذخیرہ اختیار قرار دے، اور ان شہید و مسیح اور ان کے مختتم ہمراہ ہوں کو مکر و غریق رحمت فرمائے۔

یحودتہ دکر مدد

سید محمد ہاشم دستغیب

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**حقوق اداة کرنے پر عذاب بر زخم۔**

معتبر کتاب "مصباح الحرمین" میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نیک انسان شیخ عبد الطاہر خراسانی اپنی عمر کے آخری ایام میں اس ارادے سے مذکور مغضظہ روانہ ہو گئے کہ دہیں رہیں گے اور وہیں مریں گے اسی زمانے میں ایک شخص جواہرات اور نقد رقہ سے بھری ہوئی ایک تجھیلی امانت رکھنے کیلئے کسی معتمد امین کی تلاش میں تھا۔

لوگوں نے شیخ کی طرف اس کی رہنمائی کی اور بتایا کہ مذکور مغضظہ میں یہ بہت دیانت دار اور لامائی اعتماد انسان ہیں جنما نہ آس نے اپنی امانت ان کے سپرد کر دی۔ چند روز کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اور امانت رکھنے والا جب اپنی امانت واپس لینے آیا تو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کے وارثوں کے یاس پہنچا، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کو امانت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس نے اپنا سپہٹ لیا کہ وہ کیا کرے کیونکہ وہ بالکل مفاسد ہو چکا ہے اور اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مولین کی مقدس روحیں وادی السلام میں رہتی ہیں اور وہ آزاد اور ایک دوسرے سے مانوس ہیں لہذا اس نے توسل اختیار کرنے کی کوشش شروع کی اور دعا کی کہ بار الہا کوئی ایسی صورت پیدا کر فے کہ میں اس مدت کو دیکھ سکوں اور اس سے اپنے ماں کا پستہ معلوں کر سکوں۔

اسی طرح ایک مدت گزرنے کے بعد بعض باخır حضرات کے سامنے

صورت دافعہ چیز کی اور کہا یہ کیا بات ہے کہ میں ہر چند تو سل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ شاید وہ ان مقامات پر ہوں جو اشقيا اور نگہداروں کے یہ شخصوں ہیں اور مکن ہے کہ وہ یمن کی وادی برہوت میں ہوں۔ وہ ایک ہمیت ناک وادی ہے جس میں دھشت ناک مقامات ہیں، اور مکر رہنمی سے مذکور مغضظہ روانہ ہو گئے کہ دہیں رہیں گے اور وہیں مریں گے کہ مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنینؑ کے جوار میں وادی السلام جس قدر رحمت الہی کا محل طہور اور پاکیزہ روحوں کا مسکن ہے اُسی قدر وادی البرہوت، اشقياء اور ارواح خبیثہ کا مظہر اور قیام گاہ ہے لہ وہ شخص دہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور روزہ، دعا اور توسلات میں مشغول ہوا۔ یہاں تک کہ ایک لروز شیخ عبد الطاہر کاشاہدہ کیا ان سے پوچھا کر، آپ ہی شیخ عبد الطاہر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ، "ہاں"، اور کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو مکتے میں رہتا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ پھر پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے، اور تمہارے سر پر ایسی مصیبت کیوں نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ، تمہاری امانت میں نے ایک کوزے میں رکھ کے گھر کے فلاں حصے میں نریز میں دفن کر دی تھی، اس کے بعد تم نہیں آئے تاکہ تمہارے سپرد کر دو۔ یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جاؤ اور میرے وارثوں کو پتا بتا کے اپنی

<sup>۱۰</sup> مولف شہید کی کتاب "معاد" میں وادی السلام اور وادی البرہوت میں رو جوں کے بر زخمی مقام کے بارے میں تفصیل بجھ لئی گئی ہے اس کتاب کے دوسرے حصے میں جو بزرخ تعلق ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

اانت اُن سے نہ لو۔

## وہ گناہ تو بزرخ میں گرفتاری کے باعث ہیں

لہی یہ بات کہ میں بدجھت یہاں کس وجہ سے گرفتار ہوں، تو میرے تین گناہ اس بدجھتی کے بسب بنتے۔ (حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق مرغ کے پاؤں میں پھرنسے مانند ہیں جو اسے بے قدر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوٹلائے محلے اور شہید قدش کے سفر کرنے کے بعد بخش خص مکہ مسجد کا مجاہد ہو کر دنیا سے انتقال کرتا ہے، میکن حقوق اُس کو اس طرح سے مجبور بنادیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اسے اہلیت علیم اللہ کی خدمت میں نہیں بہو تھیتے دیتے۔ نہ وادیِ اسلام نہ مکہ اور مدینہ، جسم جہاں بھی ہو روح گرفتار ہے اور اسے عالم ملکوت کی بلندیوں کی طرف پڑھنے نہیں دیتی)۔

## شیخ کے قول کے مطابق تین حقوق

شیخ عبد الطاہر کی روح فی کتاب پہلا گناہ جو مجھے بے بتایا گیا یہ تھا کہ تمہنے خواں میں قطع رحم کیا اور سیخ میں قیام کر لیا! قطع رحم حرام ہے، تم نے اپنی قوم اور اقریاء کی رعایت نہیں کی۔ کچھ لوگ جو اپنی اولاد یا الدین کے حفظ و ری اخراجات کے کفیل نہیں ہوتے اور اُس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ لوگ کسی پرہیزی میں تو مبتلا نہیں ہیں، خود دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور ان کے کلوات کی خرچ نہیں لیتے وہ یقیناً مجرم ہیں۔

وَكَسْرَا يَهُ كَمْلَةَ إِيْكَ دِينَارَ يَرِيشَ خَصَّ كَوَادَ اَكْرَدِيَا تَحَا۔ اس کتاب میں جو عبارت تحریر ہے مثا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں ایک دینا کسی

ستحق تک بہنچا نے کیلئے دیا گیا تھا لیکن انھوں نے سماحہ کیا اور ستحق کو نہ دیکھ ایک غیر ستحق کو دیدیا، اور حقدار کو محروم کرنا حرام ہے۔

## عالم کی اہانت اور اس کی سخت عقوبہ

اوٹیسری کے میرے مکان کے قریب ایک عالم رہتا تھا، میں نے اسکی اہانت کی تھی۔ عالم تھا رے اور پر حق رکھتا ہے۔ اور تمہارا دین اس سے والست ہے وہ قوم اور معاشرے پر زندگی کا حق رکھتا ہے۔ اگر کسی عالم کی کوئی نویں ہو گئی تو جناب رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ "عمرت نے فریادا، "بُو شَخْصٍ كَسِي عَالَمٌ كَيْ أَبَانتَ كَيْ أَسْنَى میری اہانت کی۔" اگر کچھ لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور کسی عالم سے بے بیے ادبی یا اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو انھوں نے اس کے حق کا کفران کیا ہے اور انھیں اس کی جواب دہی کرنا ہو گی، خلا دندا! اگر تو ہمارے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ کرے گا تو ہم کیا کہوں گے؟

پید در گکارا! ہمارا خوف تیرے عدل سے ہے۔ یا الہی! ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے معاملہ کرنا کیوں کہ ہمارے اندر تیرے معاملہ عدل کی طاقت نہیں ہے۔

## موت کے وقت ہمسایوں سے معافی بچانا

ستحب ہے کہ جب کوئی شخص یہ عسوں کرے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے

لہ و من عد لک همہ بی سے۔ جلت ان یخاف منک الا العدل  
و ان یرجو منک الا الاحسان والفضل۔

تو اپنے ہمایوں، سمشینوں اور ہمفردوں سے حقوق کی معافی طلب کرے یہ نہ ہو کہ میں نے ایسا اور دیسا احسان کیا ہے۔ کیونکہ تم نے اکثر موقع پر حق ہمسائیگی کے خلاف عمل کیا ہے، بلند آواز سے خطاب کیا ہے، اور ہمایوں کو پردیتھان کیا ہے۔ جو تمھیں اب یاد تھیں ہے۔ صحبت اور سمشینی کا حق بھی فراموش نہ کرو۔ ہمسفری کا حق بھی اسی روایت سے سمجھیں۔ آتھے

### حضرت علی علیہ السلام اور یہودی کی ہمسفری کا لحاظ

مردی ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک سفر میں کوفہ کی طرف تشریف لار ہے تھے اتنا ہے راہ میں ایک شخص حضرت کے ساتھ ہو گیا۔ اسی دوران حضرت نے اس سے اس کا نام، طور طریقہ، اور مذہب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں کوفہ کے قریب فلاں قریے کا رہنے والا ہوں اور میرا مذہب یہودی ہے، تو حضرت نے فرمایا، میں بھی کوفہ کا باشندہ ہوں اور مسلمان ہوں۔ دو نوں ساتھ ساتھ چلتے رہے اور یہودی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دورا ہے پر پہنچ گئے یہاں سے ایک راستہ کوفہ کو اور ایک یہودی کے گاؤں کو جاتا تھا۔ یہودی کے ساتھ حضرت بھی اس کے گاؤں کے راستے پر چلتے رہے۔ ایک بار یہودی متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ کونہ نہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یکھوں نہیں۔ اس نے کہا کوئی کار راستہ دوسرا طرف تھا، شاید آئی تو جنہیں کی؟ آپ نے فرمایا، میں اسی مقام پر متوجہ تھا میکن چونکہ میں تمہارا ہمسفری تھا لہذا چاہا کہ صحبت کی رعایت کروں اور چند قدم تمہاری مشایعت کروں۔

یہودی نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ یہ آپ کا ذاتی مسلک ہے یا

آپ کے دین کا طریقہ؟ اور اس طرح سے حقوق کا لحاظ کیا آپ کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی ہمارا مسلک اور ہمارا دین ہے۔ یہودی غور و فکر میں پڑ گیا کہ یہ کیسا دین ہے جو اس حد تک حقوق کی رعایت کرتا ہے؟ دوسرے روز کو فرمایا تو دیکھا کہ مسجد کو فہر کے قریب دہی کل والا عرب موجود ہے اور لوگوں کا کثیر جمیع اُس کے چاروں طرف حلقة کیے ہوئے اس کے اکرام و احترام میں مصروف ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون بزرگوار ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ خلیفۃ المسالیم اور امیر المؤمنین ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بزرگ مسلمانوں کے رہیں اور سردار تھے جنہوں نے کل میرے ساتھ اس قدر تواضع اور انکسار کا مسلک کیا تھا، چنانچہ اُس نے حضرت کے ہاتھوں اور پانوں پر بوسے دیے اور مسلمان ہو کر آپ کے خاص شیعوں میں شامل ہو گیا۔

### منظالم صراط میں اور جہنم کے اور پر

اگر کوئی شخص اداۓ حقوق کی ذمہ داری پوری نہ کرے اور اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت اور صراط میں مظالم کی عقوبات میں گرفتار ہو گا۔ مطلب کی وضاحت کے لیے مقدمے کے طور پر صراط کے اور میں کچھ مطالب عرض کرتا ہوں۔ صراط کے لغوی معنی راستے کے ہیں میکن اصطلاح اور جو کچھ شرعاً مقدس میں وارد ہوا ہے اور جس کا اعتماد ہر مسلمان پر واجب ہے اور جسے ضروریات دین میں شمار کیا جاتا ہے اس کے مطابق اس سے جہنم کے اور پر ایک پل مراد ہے۔

لَهُ وَلَكَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأُخْرَاجِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا كُلُوبَ لَهُمْ مُّؤْمِنُونَ، آیت ۲۷

## حرب جہنم کے اوپر ایک بُل

خاتم الانبیاء حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفق ہے کہ حضرت نے فرمایا، جب قیامت برپا ہوگی تو جہنم کو میرانہ شر کی طرف کھینچ کے لایا جائے گا۔ اس کی ایک ہزار تھاریں ہوں گی اور ہر ہزار ایک سالہ غلاظاو مرشد ایعنی سخت درشت فرشتوں کے ہاتھوں ہیں ہو گی جس وقت اسے کھینچیں گے تو جہنم سے ایک ملعوہ بلند ہو گا جو تمام خلائق کو تھہر لے گا۔ یعنی لوگ (والنفسا و رب نفسی) کہیں کجے یعنی خداوند امیری فریاد کو ہو جائیں۔ سوا حضرت خاتم الانبیاء کے کہ آپ چھیس کے (رب امیتی) یعنی خداوند امیری امتحن کی فریاد کو ہو جائیں۔ درحقیقت پیغمبر خدا یا یہ پدر مہربان یہں جنہیں خدا نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے اور جو اپنی امتحن کی نجات کے لیے کوشش ہیں۔ اب ہم روایت کا آخری حصہ پیش کرتے ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائیگا تو اس کے اوپر ایک بُل قائم کیا جائے گا۔ اور جنت تک پہنچنے کے لیے سب کو اس پر سے گزرنا ہو گا۔

## تین ہزار سال صراط کے اوپر

یہ صحیح ہے کہ بہشت کا راستہ صراط ہے لیکن ایک عجیب غریب راستہ ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے کہ، صراط تین ہزار سال کی راہ ہے ایک سال بلندی کی طرف جانے کیلئے، ایک سال ہزار سال نشیب کی طرف اُترنے کیلئے اور ایک سال ہزار سال سنگلاخ راستے کے لیے درکار ہوں گے جس میں

بیکھو اور دوسرے جانور بھی ہوں گے۔ البتہ صراط سے گذرنے کا انداز تیکیا نہ ہو گا۔ ہر شخص اپنے عقاید اور اعمال صالح کے نور کی مقدار کے مطابق اس پر سے گذرے گا۔

## صراط میں عقاید اور اعمال کا لور

صراط میں کوئی خاص ہو نہیں ہے بلکہ وہ تاریک ہے اور وہاں کوئی آفتاب یا ماہتاب کام نہیں کرو جائے سوا جمالِ حمدی کے۔ قیامت کے روز صرف نورِ حمد و آلِ حمد یعنی ان کا نور دلایت ہی مدد کرے گا۔ ہر شخص کا نور دلایت خود اُس کے ہمراہ ہو گا۔ ناز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکرِ خدا، اور اخلاص کا نور ہر طرف سے روشنی پھیلاتے گا۔ اور سامنے اور دونوں پہلوں کے اطراف کو روشن و منور کر دیکا جائے گا۔ لیکن اسی حد تک جس مقدار میں یہاں نور حاصل کیا ہو گا، ایک شخص کا نور وہاں تک ہو گا جہاں تک نظامِ کام کرتی ہے۔ دوسرے کا ایک فرشخ اور تیسرا کا مرف اتنا کہ اپنے قدموں کے پاس دیکھ سکے۔

مردی ہے کہ ایک شخص کا نور تو ان کم ہو گا لکھتے ہو انگوٹھا روشی دے گا اور دوسرے گرتا پڑتا ہو اگذرے گا۔

## یہ طویل راستہ بغیر نور کے کیوں کر طے ہو گا۔

یہ درست ہے کہ دضو و عسل اور عبادت کا نور بھی ہے جو تمام اعضا و جواہر

لے یوم قری المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ یسْعَیْ نور هم بین ایدیہم  
و بیانہم سورة حديد ۵۵۔ آیت ۱۳۔

بھی نیجے کی طرف کھینچا۔ کوئی چیز ایسی لنظر نہیں آ رہی تھی جس کا سہارا  
لے سکتا۔ جتنا بھی ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا نہ کوئی جائے پناہ ملتی  
تھی نہ کوئی فریاد رس تھا۔ ناگہا میرے دل میں گزر اک کپا حضرت علی  
علیہ السلام فریاد رس نہیں ہیں جو حضرت سے والستگی نے اپنا کام کیا  
اور میں نے کہا یا اعلیٰ! جیسے ہی یہ جملہ میرے دل اور زمان پر جاری  
ہوا حضرت علی علیہ السلام کے نور کو لپٹے بالائے سرخوسک کیلہ سر اٹھا کر  
دیکھا تو آپ پل صراط کے اوپر استادہ نظر آئے۔ مجھے سے فرمایا کہ اپنا  
ہاتھ مجھے دو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا اور آگ  
اک کنارے ہٹ گئی۔ حضرت کا دست کرم آیا اور اس نے مجھے  
آگ کی شیش سے نجات دیکر اور نکال لیا، اور میری رانوں پر ہاتھ  
پھیرا۔ میں اسی دشت کے عالم میں بیدار ہوا تو میرا سارا جنم جل رہا تھا  
سواؤ اس مقام کے جہاں حضرت نے ہاتھ رکھا تھا۔

اخنوں نے تو یہ کوائل کیا تو ان کی ران کے کچھ حصے تو سالم تھے  
میکن بقیہ سارا جسم جلا ہوا تھا۔ اخنوں نے تین قہینے مسلسل علاج کیا  
تیکی طرح صحیحیاب ہوئے۔ جب ان سے کسی مجلس میں اس کے متعلق  
دریافت کیا جاتا تھا اور وہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے تھے تو ہوں  
کی وجہ سے انھیں بخار آ جاتا تھا۔

### کون ساری زندگی صراط مستقیم پر ہے؟

بخار الانوار جلد سوم میں مردی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی  
شخص بغیر مشقت کے صراط سے نہیں گزرے گا۔ سو اختم الانبیاء حضرت  
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپکے اہلبیت کے۔ اخضُت نے خود فرمایا

ہے کہ یا علی کوئی شخص صراط سے بغیرِ رحمت کے نہیں گزریکا سو امیرے اور تمہارے اور  
تمہارے فرزندوں کے یہی چورہ پاک و پاکیزہ نور میں جو بغیر کسی لغزش کے گزرنیں  
گے اور بقیہ خلافت میں سے کوئی شخص گرنے سے نہیں پچھے گا۔ کون ہے جو تکلیف شرعی  
کی ابتدا سے اپنی عمر کے آخری المحاذات تک دیانت کی صراط مستقیم پر قائم رہا ہو؟ کون ہے  
جس کے اوپر کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں اس سے لغزش نہ ہوئی ہو؟ کون ہے جو نبڑی  
تک طور و طبق سے ایک لمحتے کیلئے بھی لغزش ہوا ہو اور اس سے در زم زر رہا ہو؟  
**شخص بال زیادہ باریک ا عمل تلوار سے زیادہ تیز**

لئنے زیادہ دن ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اخراج اور حنای کی  
نا ضرمانی میں گزرتے ہیں۔ یہ حنای کی اطاعت و بندرگی کے خط  
مستقیم پر ہیں بلکہ بھل طور سے ہوا دہو س کی رواہ پر ہوتے ہیں اور  
آنساں اپنے مقصد حیات سے ہزاروں فرشتے دور چلا جاتا ہے۔ در  
حال یک فتحو د اس کو توجہ نہیں ہوتی۔ وہ در میانی منزل جو شرعاً وادی  
اس پر عمل کا راستہ ہے در حقیقت اس کی شخصیت کرنا بال سے بھی  
زیادہ باریک ہے اور اس پر عمل کرنا تلوار سے زیادہ تیز دھار والا

### ہر شخص کو جہنم سے صدر پہنچے گا

خلاصہ یہ کہ بھی لوگ جہنم سے گزرنیں گے اور ہر شخص اس کے سی  
د کسی صورت میں زحمت سے دوچار ہو گا۔ پل صراط سے عبور کے  
وقت ہوں جہنم، آگ کے شعلے، دل کی طیش، اور انہی انی خوف دہرس  
کا سامنا ہو گا۔ دوزخ سے ایسی آگ بلند ہو گی جو سبھی کو گھرے گی  
اور بغیر وہ کو بھی لرزہ برانداز کر دے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ تمارے

اد پر کیا گز رے گی۔ بہر چھن گھٹنوں کے بھل سرنگو ہو جائے گا لہ  
ہر شخص "رب نفی" کی صد ابلند کرے گا۔ یعنی خداوند امیری فریاد  
کو ہر سچ اور آخر کار نجات پرہنیز تکار کے لیے ہے ہے۔ دوسرے الفاظ  
میں اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ صراط سے فرار اور نجات حاصل کرے گا  
تو یہ جمال ہے صراط بہشت کا راستہ ہے جس کے نیچے جہنم ہے۔ اس پرے  
دہی شخص گزر سکتا ہے جو اس دنیا میں منظام سے بہتر اور محفوظ رہا ہو۔

### آخرت کے مطالب تصور کے قابل نہیں

یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عالم آخرت کے حالات کسی وقت بھی اس دنیا  
والوں کی عقل و دماغ میں نہیں آسکتے اور یہ اسر محالات میں سے ہے  
انسان جب تک دنیا میں ہے جہنم اور بہشت کی حقیقت کو سمجھنے سے  
قاصر ہے لفظوں کے استثنے اک سے اتنا ہوتا ہے کہ معانی اور مطالب  
کی ایک صورت کا تصور کر لیتا ہے۔ درحالیکہ حقیقت مطلب اس سے  
کہیں بالا تر ہے۔ مثلاً جب کہا جاتا ہے آتش جہنم تو نام اور لفظ کے  
اشتراك کی وجہ سے انسان اُس اگ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو بلکہ ای  
سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے جہنم کے سانپ اور اڑادھے تو اسی  
دنیا کے گزندوں کی مثال ذہن میں آتی ہے پونک انھیں پہلے سے  
محسوس کر چکا ہے لہذا انھیں کا تصور کرتا ہے

۱۶۔ وَتَرَى كُلَّ أَمْةٍ جَاهَشِيَةً سُورَةُ جَاثِيَةٍ آیَتٌ  
۱۷۔ ثُمَّ نَبَّحَ الَّذِينَ آتَقْوَا سُورَةُ مَرْيَمٍ آیَتٌ ۱۷

آتش جہنم مومن کی دعا پر آمین کہتی ہے  
دنیا کی اگ حس اور شعور نہیں رکھتی لیکن دوزخ دیکھنے اور  
سننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ بات بھی کر سکتی ہے۔  
مردی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کہتا ہے "اعتقانی من النَّاسِ"  
یعنی خدا یا مجھے آتش جہنم سے آزاد فرمائو جہنم آمین کہتا ہے۔ یہ حقیقت  
ہے کہ جو شخص دوزخ کے شرست خدا کی پناہ چاہتا ہے اور اس کے  
لیے دعا کرتا ہے تو وہ جہنم اُس کے لیے آمین کہتا ہے۔ اسی طرح  
جس طرح کوئی شخص بہشت کے لیے دعا کرے تو خود بہشت بھی  
اس کے لیے آمین کہتی ہے اسی صورت سے حور العین کے بارے  
میں بھی ہے کہ جس وقت کوئی مومن دعا کرتا ہے "وَنَّ وَجْهَنَّمِ  
مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ" یعنی خدا یا میرے ساتھ حور کی ترویج فرما،  
تو خود حور العین بھی آمین کہتی ہے۔

### جہنم کہتا ہے، ابھی میرے پاس جگہ ہے

جہنم کی اگ جب دور سے گھنگاروں کو دیکھتی ہے تو پیچ و تبا  
کھاتی ہے، غیظ میں آتی ہے اور نعرہ مارتی ہے لہ دوزخ کی اگ  
قابل خطاب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ جس روز جہنم سے  
کہیں گے کہ آیا تو بھرگئی ہے جو تکھیے گی، کیا اس سے زیادہ اور بھی ہے؟

لَهُ اذًا لِّجَهَنَّمِ مِنْ مَكَانٍ بَعْدِ سَعْوَالْهَا لَغَيْظَ الْأَزْفَارِ فَيَرَأُ سُورَةُ فَرْتَانَ آیَتٌ ۱۷  
تَهْيَمْ لَقْدِ بِجَهَنَّمِ هُلْ امْتَلَأَتْ فَنَقُولُ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ قِيَامَةٍ آیَتٌ ۱۸

کی ابھی کوئی مجرم باقی ہے؟ بعض مفسرین نے اس مقام پر جہنم کے نگہبانوں کو مراد لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا خطاب ان فرشتوں سے ہو گا جو جہنم پر مامور ہیں۔ لیکن یہ ظاہر آست کے خلاف ہے کیونکہ دوسری آیتوں سے بھی دوزخ کے شعور و ادراک کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا اگر کوئی جاہل یہ خیال کرتا ہے کہ آتش جہنم صرف کفار اور دشمنانِ الہلیت کیلئے ہے، دوسروں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ مومنین تک کے لیے نہیں ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اولاً یہی کب ضروری ہے کہ ہر شخص بایمان دنائے اٹھے؟ کیا تمہیں اس کا خوف نہیں ہے کہ شیطان تھار سے ایمان کو خارد کر دے؟ دوسرے اگر فرض کر لیا جائے کہ تمہیں ایمان ہی کے اوپر موت آئی تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جہنم کے رشت طبقے یہ ہی تو مسلمات میں سے ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے لئے پہلا طبقہ جس کا عذاب دوسرے طبقات سے کم ہے اُن تنهیگاروں کیلئے ہے جو بزرخ میں نہیں ہوئے اور ان کا عذاب قیامت پر اٹھا رکھا گیا۔

### دوزخ میں عذاب کے درجے مختلف ہیں

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ پنڈیوں تک بعض رانوں تک، بعض کمرنک، ایک گروہ اپنی گردنوں تک، اور کچھ لوگ اپنے سارے

جسم کے ساتھ آگ میں عرق ہوں گے لہے اسی طرح فرمایا کہ جتنی افراد میں سے جس شخص کا عذاب کم سے کم ہوگا اُس کے پاؤں میں آگ کے اسے جو تے پہنائے جائیں گے کافی اس کا دماغ کھولنے نہ گا۔ ہم بہت دور ہیں منزل بحث سے۔ ہمارے ایمان کے آثار کہاں ہیں؟ ہمارا خوف درجاء کہاں ہے؟

**تین ہزار سال تک پھونکنے کے بعد آتش دوزخ کا رنگ**  
باوجود یہ کہ خداوند عالم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغفرت کا صریح وعدہ فرمایا ہے۔ اور خود آنحضرت بھی رحمت وغفرت کے مظہر ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ کی کیا حالات تھی اور آپ کے دل میں جہنم کا لکنا خوف تھا؟ ابو بصر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آقا! میرے دل میں قادات پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز جسروں ایں حضرت خاتم الانبیاء کے پاس نازل ہوئے، وہ سماش بشاش اور تبسم رہتے تھے لیکن اس روز افسرده اور محضون دلگرفتہ تھے اور غم و اندوه کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر تھے۔ حضرت رسول خدا نے ان سے فرمایا، یہ تم آج رنجیدہ اور غمیں کیوں نظر آ رہے ہو؟ انھوں نے عرض کیا، ایسا رسول اللہ جہنم کو پھونکنے اور دھوکتے کا سلسلہ آج تک مامہوا۔

لَهُ بِكَارِ الْأَنْوَارِ جَلَسَ مَلِئَةُ الْأَنْوَارِ هَا لَقَدْ مِنْ ذَنْبِكَ دَمَاتُ أَخْرَى۔ سورہ نسخ آیت ۲۳

آنحضرت نے فرمایا، یہ پھونکنے کا کیا معااملہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، کہ پروردگار کے حکم سے جہنم کو ایک ہزار سال تک پھونکا گیا۔ یہاں تک کہ اس بخارنگ سفید ہو گیا پھر ایک ہزار سال تک پھونکنے کا آگیا اور وہ سرخ ہو گیا، اس کے بعد میں یہ ایک ہزار سال تک پھونکنے کیا اور اس کی آگ سیاہ ہو گئی، جو ذہنشتہ اس کام پر معمور تھے دہاب فارغ ہوئے ہیں۔ میں اسی آگ کے ہول سے غمکن ہوں پیغمبر خدا رونے لگے تو ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اور عرض کیا کہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو ہر اس گناہ سے محفوظ رکھے گا جو آش جہنم کا موجب ہو۔

### ز قوم حنظل سے بھی زیادہ تلح

قرآن مجید میں خداوند عالم نے بار بار خبر دی ہے کہ دوزخ میں لکھکاروں کی خواراک ز قوم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل حنظل ہے بھی زیادہ کرو ہوتا ہے۔ اتنا تلخ کہ اس کا صرف ایک ذرہ اس سارے عالم پر تقسیم کیا گیا۔ مردار کی لاش سے بھی زیادہ کندہ اور بد بودار ہوتا ہے اس کی ظاہری شکل بھی بہت ہی وحشت انگیز اور تعیب ہے جس وقت گلے سے نیچے اترتا ہے تو جوش مارتا ہے لیکن بھوک سنی تکلیف اس تدریش دیدی ہوتی ہے کہ جہنمی اسے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ پ्रافشار اور تکلیف ہے کہ جسے رفع کرنے کے لئے از قوم کھانے پر

لہ ان شجرة الز قوم طعام الاثيم کا ملہل یغلى في البطن  
سورہ حمد خان آیت ۲۵۳۔

دو زخ کی دوسری غذاوں میں سے غسلیں اور ضریع بھی ہیں لہ  
کھولنا ہوا پانی جو چہرے کے گوشت کو گلا دیتا ہے  
دو زخ کی پینے والی چینزوں کی جانب بھی اشارہ کر دوں۔ مجدد ان  
کے صدید ہے جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ زنا کا پر عورتوں کی گندگی ہے  
جو بہت ہی گرم، کھولتی ہوئی، انتہائی بد بودار اور تنقعن ہے۔ یہ ایک  
سیلاں کی طرح بہہ رہی ہوگی۔ اور دوزخیوں پر اس قدر پیاس غالب  
ہو گی کہ اسی میں سے پیشیں گے اور فریاد کریں گے کہ ہم کو پلانہ اسی طرح  
پینے والی چینزوں میں سے جیسم ہے جو اس قدر گرم ہے کہ جب اس کا جام پلانے  
کے لیے لائیں گے تو وہ ابھی منہ میں داخل نہ ہو گا کہ اس کی گزیری کی تشریف  
سے چہرے کا تمام گوشت گرجائے گا۔

### مومنین نقین کرتے ہیں

کفار جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سب رستم داسفند یار کی دات انوں  
کے ماند افسانے ہیں تھے لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن حق ہے میتamat  
اور بہشت دوزخ حق ہیں تھے مومنین جس وقت سنتے ہیں تو نقین

لہ تریث شرک کے لیے کتاب "معاد" حصہ بختم ملاحظہ ہو۔

لہ وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمھل یسغرو المجهہ بئش الشراب دسافت  
مرتفقا۔ سورہ کہف آیت ۲۹

لہ ان هلن الاصاطیر الاقولین سورہ انعام آیت ۲۵۴  
کہ الحاقۃ ما الحاقۃ۔ سورہ الحاقۃ آیت ۲۶۱

تجھے سے امن و امان طلب کرتا ہوں، جس روز مال داولہ کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے سوا اُس شخص کے جو سالم دل کے ساتھ آئے۔

## عذاب حجتِ نمونے

جوہنی زنجیر دن کا ایک حلقو بھی اگر اس دنیا میں لا یا جائے تو سارے عالم کو جلا دے۔ عذاب کے شعبوں میں سے جہنم کے نگہبان ہیں جو بہت تند خود کی خلق، قبیل، اور وحشت ناک ہیں جس وقت دوزخی آتش جہنم سے باہر آنے کی تسویش کریں گے تو پھر اسی میں پلٹا دیئے جائیں گے ہے۔

روزی ہے کہ دوزخی شتر سال تک اس میں دھستے چل جائیں گے اس کے بعد اوپر لئے کھیٹے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ اور جب اوپر سینخنے کے قریب ہوں گے تو دوزخ کے ماورین اور پہرے دار اپنے آہنی گرز جعن کو مقمعہ کہتے ہیں اور اس کی جمع مقامع ہے ۳۰) ان کے سروں پر مار کے پھر اسی میں واپس کر دیں گے۔

## دوزخیوں کے سروں پر جہنم کے گرز

یہ کوئی ضعیف روایت نہیں بلکہ قرآن مجید کی صحتی خبر ہے کہ جو ریاضی زندگی میں خدا کے سامنے نہ کھکے اور سرکشی کرے درحقیقت وہی جہنمی گرزوں کا سزاوار ہے جو اس کے اوپر مارے جائیں گے۔

لَهُ كَمَا أَرَادَ وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمَّ أَعْيُدُ وَفِيهَا سُورَةٌ بَحْرٌ آیَتٌ ۲۲  
۲۳ لَهُ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۔ سُورَةٌ بَحْرٌ آیَتٌ ۲۱

کرتے ہیں جس وقت ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ہے۔ بحر حن ہر حق و صداقت سے زیادہ سُلْطُم ہے کیونکہ یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔

## دوزخیوں کا لباس آگ کا ہو گا

”سرا بیلهم من قطران“ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بفردی گئی ہے کہ دوزخی آگ کا لباس پہنیں گے ہے۔ اور جس طرح جل خاؤں میں قیدیوں کو ایک مخصوص لباس پہنا یا جاتا ہے جہنمیوں کو بھی جہنم کا مخصوص لباس پہنا یا جاتے گا جو آگ کا ہو گا۔ دوزخ کے خصوصیات اور اس کے عذاب کی کیفیت بھی سننے کی ضرورت ہے شتر باتھ کی زنجیر جہنمی کی گرد میں ڈالی جائے گی اور اس کے بعد آگ میں گھسیٹا جائے گا۔

## نوف آتش سے حضرت علی علیہ السلام کے نکلے

یہ حضرت علی علیہ السلام تھے جو شب کے درمیان غش کر جاتے تھے اور لیسے عذابوں سے خدا کی امان چاہتے تھے۔ آپ اپنی مناجاتوں میں عرض کرتے ہیں، ”اللَّهُ أَسْلَكَ لِلْإِيمَانِ يَوْمًا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ“ یعنی خدا یا میں روز قیامت کے لیے

لَهُ أَنَّا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَا ذُكْرُ اللَّهِ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَذَلَّتْ عَلَيْهِمْ أَيَّاتُهُ زَادَتْهُمْ أَيَّاتُنَا وَلِيَرْبُّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ آیَتٌ ۲۵ لَهُ قَطْعَتْ لَهُمْ شَيَابُ مِنْ نَارٍ سُورَةِ الْأَنْفَالِ آیَتٌ ۲۶ ثُمَّ فِي مُسْلِمَةٍ فِرَاعَهَا سَبْعُونَ ذُرَاعًا فَاسْكُنُوهُ بِمَوْرَةِ الْمَاقَةِ آیَتٌ ۲۷

حضرت رسول ﷺ حملی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رہائش نے آنحضرت کو خبر دی کہ اگر ان میں کا ایک گرزاں عالم کے پہاڑوں پر مارا جائے تو زمین کے ساتوں طبق تک ریزہ ریزہ کر دے۔

اہل سلم حلقہ میں نہیں جائیں گے

در اصل ایک سرکش آدمی ہی ایسی عقوبات کا سازدار ہے جہنم کے کرشوش کامقاوم ہے دردناک کوئی مشخص صاحبِ سالم ہے اور اُس نے خدا کے سامنے مرتسلیم خم کر دیا ہے تو اس کو جہنم سے نکایا واسطہ والبتہ بوجوگ سرکش اور نافرمان ہیں اور قرآنی تعبیر کے مطابق "عَتَّل" (یعنی بذخ او رظاکم وغیرہ) ہیں لہ تو قیامت میں ان کے بدن بھی انکے نفسوں کے مانند سخت، ضخیم اور درشت ہو جائیں گے جہنمیوں کے جسم ان کے دلوں کی طرح سخت ہوں گے جیونکہ دنیا میں انکے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ جیونکہ قیامت میں ان کے بدن بھی ان کے دلوں کے مانند ہو جائیں گے لہذا کوئی شخص یہ ایسا راد و اعتراض نہ کرے کہ ان کے کمزور جسم کے لیے اتنے سخت عذاب کیوں ممکن ہیں؟

ان کے دلوں کی طرح ان کے سخت اجسام

کتاب کفایت المودین میں مذکور ہے کہ اہل عذاب کی مشتر

لہ عَتَّلْ بَعْدَ ذَالِكَ زَنْبُقْ - سورہ قلم آیت ۳۱۔ ۳۲۔ قلوبهم کا الحجارة اواشد قسوہ سورہ بقرہ آیت ۲۵۔

جلدیں ہوں گی اور ہر جلد کی ضخامت چالیس باندھ ہوگی۔ جو سرکش نفس دنیا میں قرآنی آیت کا آخر قبول نہیں کرتا تھا فرمات میں اس کا جسم بھی اسی طرح سخت ہو جائے گا۔ اور روایت میں ایک دوسری تعبیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے دانت کوہ احمد کے برابر ہو جائیں گے۔ دہی سخت نفس اور دل اُس کے بدن میں لاہر ہو گا جو قرآن سے متاثر نہیں ہوتا تھا دار الحالیکہ پانی پتھر کو تأشیر اور شکافتہ کر دیتا ہے لہ۔ دکھتا ہے کہ موت ہے۔ قیامت ہے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی صلاحت اور سنگدھی اس حد تک بہوچخ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم اس شیخ خوارج پر کوئی کسر خود ہی پانی پلا دو لیکن دہ۔ نزید کے انعام و اکرام موت ریتیجخ دیتا ہے۔

آخرت میں باطن کا غلبہ ظاہری صورت پر

آخرت میں صورت کے اوپر اندر وہی کیفیت غلبہ ہوتا ہے یعنی ظاہری حیثیت باطنی حقیقت کے مطابق ہوتی ہے اور جو کچھ دل میں ہے بدن بھی اُسی کا نمونہ بن جاتا ہے جس سے قلبی حالت ظاہر ہو جاتی ہے ہے جو دل اتنے رفیق اور نازک ہیں کہ ان عذابوں کا بیان سننا کی طاقت نہیں رکھتے ان کے جسم بھی بچھوں کی طرح لطیف ہو جاتے ہیں جنما پچھہ بہشتی لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ یہ بات سنتے کی تاب نہیں رکھتے

لہ وَإِنْ مِنَ الْحَجَارَةِ مَا يَنْفَعُ جَمِينَ إِنَّ الْأَنْهَارَ وَإِنَّ مِنْ هَلَاكِ الْيَشْقُ  
فِي خَرْجِهِ مِنْ أَنْهَارِ الْمَاءِ وَإِنْ مِنْ هَلَاكِ الْمَاءِ كَيْفَ يَحْطُمُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .. سورہ بقرہ آیت ۲۴  
لہ۔ یعنی پتلی السرایر۔ سورہ طارق آیت ۲۶

کہ امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار پتے کا نازک گھار سے شعبہ تیر کا  
نشان بنایا گیا۔

### بہشت اور جہنم اگر موجود ہیں تو کہاں ہیں؟

سوال کیا جاتا ہے کہ آیا بہشت اور جہنم اسوقت بھی موجود ہیں؟  
اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ یہ سوال روایتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے  
اور امام علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ہاں بہشت اور جہنم  
آج بھی موجود ہیں۔ رہی یہ مات کہ دونوں مقام کہاں ہیں؟ تو روایت  
کے مطابق آپ نے اس طرح ثعیر فرمائی ہے کہ بہشت ساتوں آسمان  
کے اوپر اور جہنم زمین کے نیچے ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ  
”والبحر المستجوس“ (یعنی قسم ہے کھولتے ہوئے سمندر کی) اسی کے  
طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی زمین کی اندر ونی آگ باہر آجائے گی۔  
بہشت و جہنم کی موجودگی پر جوشوا بدلالت کرتے ہیں انھیں سے دہ  
روایات و اخبار بھی میں خونراج کے بارے میں وارد ہیں۔

آپ نے اکثر سنا ہو گا کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا، میں شب معراج  
جنnt میں پہونچا اور جہنم میں نے مجھے بہشتی سبب دیا جسے میں نے کھالیا  
ادروہی فاطمہ نہ صراحتاً کا ماذہ تخلیق بنا۔

### جہنم میں خلود صرف کفار کے لیے ہے

صاحب ایمان کو یہ خوشخبری بھی دیتا چلوں کہ جو شخص ایک ذرہ  
برابر بھی ایمان اپنے ہمراہ نے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا  
 بلکہ آخر کار ایک روز اس سے باہر آئے گا۔ خلود یعنی ہمیشہ دو روز میں

رہنا ماندہ سن اور کفار و شرکیں کے لیے ہے لہ  
اگر کوئی مومن اپنے گناہوں سے تو بھی بغیر مر گیا اور بزرخ یاقیت  
کی عقوباتوں سے پاک نہیں ہوا تو اس وقت تک تک ہمیں رہے گا  
جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ میکن کتنی مدت تک رہے گا؟ تو یہ  
اس کے ان گناہوں کی مقدار پر منحصر ہے جیسیں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے  
خلاصہ یہ کہ تم نے اس دنیا میں اپنے کو جیسا بنایا ہو گا ویسا ہی دہان  
دیکھو گے۔ اگر اپنے کو بھیر ریا بنایا ہے، جانور بنایا ہے، لومڑی بنایا ہے  
تو اختر میں بھی یہی صورت ہو گی۔ اگر ہماری فرشتہ میں خصلت رہے ہو تو  
ہاں بھی فرشتہ بن کے اٹھو گے۔ اور جب تک فرشتہ صفت نہ بنو گئے تھارے  
یہ ملکوت علیا اور جنت میں جگہ نہیں ہے۔ انسان جب تک فرشتوں  
کی سیرت اختیار نہیں کرے گا اگر وہ درگروہ ملائکہ اس کی زیارت کو  
ہیں آئیں گے۔ قبر کی پہلی شب اور اس کے بعد دیگر عالموں میں اس کا  
نشر اسی صورت پر ہو گا جس کے ساتھ میں اپنے کو ڈھالا ہے  
نکیر اور منکر ہی لشیر اور مبشر ہیں

آپ نے اکثر سنا ہے کہ قبر کی پہلی شب دو فرشتے میت سے باز پرس  
کیلئے آتے ہیں جن کے نام نکیر اور منکر ہیں یعنی ضرر بہونچانے والے اور  
نچھیں کرنے والے نکیر اور منکر کس کے لیے ہیں؟ اس شخص کیلئے جو آدمی  
نہ بنا اور مر گیا۔ لیکن جس نے آدمیت اختیار کی اس کے لیے نکیر اور منکر نہیں

لے اقتضت ان تعلاءہ امن الکافرین من الجنة والناس۔ دان تخلد فیها الملعان دین  
”دعائے کیل“ لے دلملائکہ یہ دخرون علیهم من کل باب سورہ رعد آیت ۲۳۲

بلکہ بشیر اور مبشر ہیں یعنی خوشخبری دینے والے۔

اہ رجب کی دعا ہے کہ "وار عینی مبشر اور بشیر اولاً قریب منکرا اور نیکر کونہ  
منکرا اونکیرا" یعنی خداوند اپنے شب بھی منکرا اور نیکر کونہ  
دکھانا بلکہ مبشر اور بشیر کو دکھانا دراصل دو فرشتوں سے زیادہ ہے  
ہیں۔ اس موسمن انسان کے لیے جس نے یہاں اپنی اصلاح کرنی ہے بشیر  
اور مبشر ہیں اور اس کے عینر سیئے جس نے ذہاں کے لیے سروسامان  
چیز انہیں کیا ہے نیکرا و منکرا۔ اب یہ خود تھمارے ہاتھ میں ہے کہ تم  
کیسے بنتے ہو۔ اس بارے میں چند جاذب نظر اشعار ملتے ہیں  
جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے متسوب ہیں یعنی شخص کی موت کے بعد  
اس کا سروسامان وہی ہے جو اس نے یہاں تیار کیا ہے۔ اب اس نے  
اپنے لیے جیسا اگر تعمیر کیا ہو۔ صرف دو بالشت کالم باجڑا یا حد نظر  
تک طویل و غریض۔ اگر اس نے اپنے وجود میں وسعت پیدا کی ہوگی  
تو اس کے لیے کوئی ضيق اور تنگی نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان  
کی فراغت اور فراغتی اس عالم میں اس کی وسعت قلب اور سینے  
کی کشادگی کی تابع ہے۔

### لوگ سیرتوں کے مطابق صورتوں پر مشور ہونگے

تفیرتی میں آیہ مبارکہ "یوم ینفخ فی الصور فتاوں افواحًا"  
(یعنی حیں روز صور پھونکا جائیں کاپس تم لوگ گروہ ذرگروہ آؤ گے)

<sup>ل</sup> لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا اللہ تی کا قبل الموت بایسکنها  
فان بنها بخیر تاب مسکنها و ان بنها بشرخاب حاویها

کے ضمن میں روایت ہے کہ حضرت رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا  
گیا کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے یا مسلمانوں کے ہے تو حضرت نے  
فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں، جن کی دش صفتیں میدانِ حشر میں وارد  
ہوں گی۔ کچھ بندوں کی صورت میں، کچھ سوروں کی شکل میں، ایک گروہ  
اووندھے منھ، ایک گروہ اندرھا۔ ایک گروہ اپنی زبانوں کو چاتا ہو گا اور  
آن سے پیپ جاری ہو گا وغیرہ ہم۔ اور ایک گروہ ایسا بھی مشور ہو گا کہ  
ان کے چہرے چودہ ہو گی رات کے چاند کے مانند چک رہے ہو نکے  
یہ فرشتوں کی طرح اہلِ حشر سے بلند مقام پر چل رہے ہوں گے۔  
خلاصہ یہ کہ ہر شخص اپنی اندر و فی حالت کے مطابق مشور ہو گا۔  
یعنی اس کا باطن جس نوعیت کا ہو گا اس کا طاہر بھی اسی کا نمونہ ہو گا۔  
اگر اس نے اپنے اندر فرشتوں کی خصیتیں پیدا کی ہیں تو روز قیامت  
ملائکہ سے بہتر ہسن و جمال کا مالک ہو گا۔ اگر در نہ صفت رہا ہے اور خشم  
و شہوتِ رانی کی عادت اختیار کی ہے تو اسی شہور روایت کے مطابق  
ارشاد ہے کہ لوگ ایسی صورتوں پر مشور ہوں گے کہ بندرا اور  
سور بھی ان سے خوبصورت ہیں۔ وہ اپنی شکلوں سے اس قدر روحش نہ دہ  
ہوں گے کہ آرزو کریں گے کہ انھیں جلد سے جلد قبرِ حتم میں ڈال دیا جائے  
تاکہ لوگ ان کے کریہ منظیر کون دیکھیں۔ وہ کس قدر مضطرب ہوں گے کہ  
دوزخ ان کے لیے آسائیں کی جگہ ہو گی؟ یاں بچھپن درندہ خصلت  
رہا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا ایک کتنا ہے جو اپنے داتوں سے کاٹ رہا ہے۔

لہ۔ عربی متن، ترجمہ اور روایت کی فارسی تشریح شہید مستغیب کی کتاب "مواد" میں ملاحظہ ہو۔  
مثہلہ میشور الناس علی صور حسن عند القدرہ راخنازیر

وہ اپنی زبان اور قلم سے جھیرتا پھاڑتا ہے، نیش زنی کرتا ہے۔ اسے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے کسی کی آبرو دینی اور دل آزاری کرنے میں بات نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں ہر شخص کی شکل اس کے سیاطنی کیفیتیں اور ملکات کے مانند ہوگی تاکہ اس کا باطن جو کچھ بھی ہو، اگر انسان ہو تو بہترین شکل میں اور اگر جیوان ہو تو بدترین صورت میں مشور ہو۔

**آخرت کا عقاب دنیاوی عقوبات سے مختلف ہے**  
معاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ عالم آخرت کا عذاب و عقاب دنیاوی عقوبات کے مانند نہیں ہے مثلاً کسی شخص کو گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ اسے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور طاغوت و سرش اور ظالم و سفاک حکام کے نبانتے کے مانند اس کے ناخن اکھاڑا دیتے ہیں تو یہ ایک دوسری صورت حال ہے اور اس کا عام دنیاوی عقوبات کے ساتھ مقابیہ اور موائزہ نہیں کیا جا سکتا ہے اعمال کے محض ہوتے کو بھی ہم عنوان بنانا نہیں چاہتے۔ اسی طرح وہ آگ ہے جو خود انسان کی ذات سے شعلہ در ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہم جس قدر بھی چاہیں کہ جنم اور اس کے عذابوں کا اپنے ذہن میں تصور کریں کامیاب نہ ہوں گے۔ اجمانی طور پر صرف اسقدر جان لینا چاہئے کہ وہ یہاں کی طرح نہیں ہیں۔ اور ان کی کیفیت و خصوصیات کا علم بھی ضروریات مذہب میں سے نہیں ہے کہ ان کا جاننا اور ان کا عقیدہ رکھنا لازمی ہو۔

**خواب بر زخمی ثواب و عقاب کا نمونہ ہے**  
آیت "من امکم بالليل والنهار" کے سلسلے میں اصول کافی کے اندر ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ احلام، روایا، اور خواب انسانوں کے اندر ابتدائے خلقت سے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ایک پیغمبر حب اپنی امت پر معمouth ہوئے تو انھوں نے ہر جزء بر زخم، قسم کے سوال وجواب اور عذاب و عقاب کے بارے میں اخیں بتایا۔ لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ سختی تھے کہ مردے سے سوال و جواب کیسا؟ وہ تو خاک ہو کے فنا ہو جاتا ہے۔ اس پر خدا نے تعالیٰ نے اس ساری امت کو خواب دیکھنے کیصلاحیت عطا کی۔ شخص نے ایک مختلف اور جدید قسم کا شخص خواب دیکھا۔ جب ایک دوسرے سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے کل شب خواب میں کچھ چیزیں دیکھیں لیکن جب بیدار ہوا تو کچھ بھی نہ تھا دوسرا کہتا ہے کہ میں اس سے بالا تر اور اہم مناظر دیکھے۔ جب بیدار ہوا تو کوئی چیز نہ تھی۔ جب انھوں نے پیغمبر سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا کہ خدا نے عز و جل تم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آدمی موت کے بعد ثواب کی حالت میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ جسم خاک کے نیچے ایک طولانی نیند میں ہو گا۔ یا خدا نخواستہ نالے اور فریاد کر رہا ہو گا۔  
معانی الاخبار میں وارد ہے کہ حضرت رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعثت سے قبل اپنے جیسا ابوطالب کی بھٹریں چرایا کرتا تھا میں تبھی تبھی دیکھتا تھا کہ بھٹریں بغیر سی حادثے کے اچھل کے سکتے میں آجائی تھیں اور تھوڑی دیر کے لیے چڑنا چھوڑ دیتی تھیں۔ چنانچہ میں نے بھرپول میں سے

اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس وقت عالم بزرخ میں کسی میمت کے نال و فریاد کی آواز بلند ہوتی ہے تو اسے جنات اور انسان کے علاوہ بھی سنتے ہیں۔ یہ جانور مردوں کے نالوں کی آواز متوحش ہوتی ہیں خدا کے تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مردوں کی اس آواز کو زندوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ان کا عیش منقص نہ ہو۔

### مُرُدَّے زندوں سے التماس کرتے ہیں

اگر آدمی اپنے گھروں اور رشتہ داروں کے نال و فریاد اور آہ و زاری کی آوازیں سنن لے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی خدا کی ایک حکمت ہے کہ کوئی شخص مرنے والوں کی حالت سے آگاہی نہ رکھتا ہو۔ اس وقت صرف خدا ہی جانتا ہے کہ مرنے والے کس قدر نالے، کس قدر آہ و زاری، اور ہم سے تم سے کس قدر التباہیں کرتے ہیں اور خاص طور پر شب قدر میں التماس دعا کرتے ہیں۔ یہ التماس دعا اُس طریقہ کا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ہمارا التماس ایک طریقہ کی رسمي فرمائش اور خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میت کا التماس گدائی، خوشابد، اور تضرع و زاری ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے گیریہ کھی اور فرنہ مایا کہ، اپنے مردوں پر رحم کرو، بالخصوص ماہ رمضان میں وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی رمضان کے ہینے گذارے، اور شب قدر ہوں سمجھ رے سیکن ان کی وقت رنج بھانی اور یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ تم مجھے ہمارے پاس آنے والے ہو۔ لیکن ابھی جب تک ماہ رمضان مختاری و ستر سی میں ہے ہمارے یہے بھی

کچھ فکر کر دو۔ وہ اس طرح سے التماس اور التباہ کرتے ہیں کہ اس نے حضرت رسول خدا کو بھی رُلا دیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ وحشت ناک خواب دیکھتا ہے نالے اور آہ و فغاں کرتا ہے۔ سیکن جو شخص اس کے پہلو میں ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنتا، یا خوشی سے اس قدر رہنتا ہے کہ اگر عالم بیداری میں ہوتا تو اس کے تھیے کی اور اس کافی دور تک جاتی، لیکن جو شخص اس کے پہلو میں ہے وہ بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب تم اپنے باپ کی تبریز جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں سنتے سیکن خدا جانتا ہے کہ وہ یہی کارہ اس وقت کن مصیبتوں اور فریادوں زاری میں ہے۔ یا انشاء اللہ کن مسروں اور بہجت و سرور سے لطف اندر فز ہے۔

احلام یعنی خواب دیکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر غور کرے۔ اس لیے کہ موت کے بعد پیش آنے والے حالات کا ایک ٹوٹنے بھی خوابوں میں دیکھتا ہے۔

میں کنیزِ دل کو آزاد کرتا ہوں تاکہ جہنم میں نہ جاؤں  
تکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک صاحبِ حیثیت ہورت مسجد نبوی میں

لہ۔ کان المولیٰ یا توں فی کل جمعۃ من شهر رمضان فیفقون  
و پیغادی کل واحد من هم بصوت حزین بالکیا یا اهلہ دیا والداؤه و  
یا اقتربیۃ اعطفواعیتی البشی یہ حکمہ اللہ دا ذکر دنا فولا  
تنسونا بالد عاء ارجموا علینا..... (سفیتہ البخار جلد ۲ ص ۵۵۵)

پیغمبر حندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیجھے نماز پڑھنے کیلئے حاضر ہوئی آنحضرت نے نماز میں یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ "در حققت جہنم ان کی دعده گاہ ہے۔ جو شخص لاکفر کے ساتھ رہے (اس کی وجہ جہنم ہے، اس کے سات دروازے یا سات طبقے ہیں۔ اور ہر گروہ قسمی جہنم کے دروازے میں سے ایک درہ سے لہ وہ عورت بائیان تھی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مستدرت سے گریز کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ را اس آیت نے مجھے بہت ڈر دیا ہے اور میں بہت بچپن ہوں، میں کیس کروں کہ یہ جہنم کے دروازے میرے لیے نہ ہوئے جائیں؟ آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ صدقہ آتش جہنم سے بچانے والی ایک سپرہیٹے یا رسول اللہ را اس نے مال دنیا سے سات کنیزیں خریدی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھتی (یعنی اپنی ساری دولت ان کنیزیوں کی خریداری میں اصراف کر دیا ہے) میں جہنم کا ہر در دروازہ اپنے اور بیند گرنے کیلئے ایک ایک کنیز کو راه خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اطینان دلائیں کہ جہنم کی آگ مجھ کونہ جلا سکی

عَالِمَ بَرْزَخَ مِنْ بُهْتِ خُوفٍ وَرُخْطَرَےِ يَهِ

کتاب من لا يحضره الفقيه میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک خاص صحابی کا یہ قول منقول ہے کہ میں نے اپنے آقا سے ایک

لَهُ وَأَنَّ جَهَنَّمَ مَلْوَعَنْهُمَا جَمِيعُنَّ لَهَا سَبْعُ الْبَابَ لِكُلِّ مِنْهُمْ

جزء مقصوم سورہ حجر آیت ۲۵-۲۳

لَهُ الصَّدَقَةُ جُنَاحُهُ مِنَ النَّارِ سلسلۃ البخار جلد ۲۔

ایسی حدیث سنی ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا یہ حدیث مجھ کو خوف زدہ رکھتی ہے۔ اس نے میرا سکون اور آرام چھین لیا ہے اب دنیا کی کوئی سخت سے سخت میبدت بھی پیش آجائے تو مجھے میرا شر نہیں سکتی کیونکہ میں نے ایک ایسی آگ حاصل کی ہے جس کی موجودگی میں کوئی دوسری آگ دل پر اشرا ف نہیں ہوتی۔

ایک روز میں امام موسی بن جعفر علیہما السلام کی خدمت میں حافظ تھا تو آپ نے (رقت قلب کے سلسلے میں) فرمایا، جب تم کسی میمت کو دفن کرنا چاہو تو جائزے کو ایک ہری بار میں قبر تک شیجاؤ۔ اگر مرد ہے تو جائزے کو قبر سی پائیتی کی جانب رکھو اور اگر عورت ہے تو قبیلے کی سمعت میں اسے تین بار اٹھاؤ باری باری کچھ قریب یا جا کر رکھو اور تیسرا بار قبر سی اتارو۔ "فَإِنَّ لِلَّهِ رَحْمَةً هُوَ الْأَعْلَى" اسلئے کہ قبر کے لیے بہت سے خوف ہیں۔ عالم برزخ کے مراحل بڑے ہولناک ہیں، میکن ہمارے دلوں میں کس قدر قساوت پیدا ہو چکی ہے۔ رادی کہتا ہے میں عمر کے آخری دم تک اس سوزش میں بتلا رہوں گا۔ لیکن ان باتوں کے باوجود ہم کوئی اشربول نہیں کرتے جو شخص ان مطالب کو قصہ کہانی سمجھتا ہے وہ حجاج کے مانند انتہائی قستی القلب آدمی ہے۔

اگر میں صراط سے گذر گیا....

ایک مرتبہ ایک منافق شخص نے جناب سلمان سے خواہل المسلمين تھے اور جن کا القلب سلمان محمدی ہے ان کی حکومت اور مدائن کی گورنری کے زمانے میں کہا، سلمان! یہ تمہاری سفید دل رحمی بہتر ہے یا (معاذ اللہ)

کتے کی دم؟ یہ سلامان تھے کوئی بچہ نہیں تھے پھر بھی یہ بات سننے کے بعد آپ جوش یا غصے میں نہیں آئے بلکہ انہی اُنی ملائمت کے ساتھ فرمایا، اگر میں پل صراط سے گزرا جاؤں تو میری داڑھی بھتر ہے اور اگر گر جاؤں تو کتے کی دم بھتر ہے۔

چونکہ آخرت ان کے نزدیک بہت عظیم چیز تھی الہذا یا فقرے اور نہ احتیس ان کے لیے مکھی کی بھنبھنا ہست سے زیادہ و قعدت نہیں رکھتی تھیں جو مومن کی تلب و درج پر کوئی اشتر نہیں ڈالتیں۔ جو شخص خود بزرگ اور بزرگ کو پہچاننے والا ہوتا ہے اس کے نزدیک مادی نزدگی تھوڑی اور حقیر ہو جاتی ہے۔ جب تک تم خود بزرگ نہ بتو گے بزرگ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر بغرض محال پہنچ بھی جاؤ تو تم خود فرار اختیار کرو گے۔ اس بزرگ منزل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے، اور ادراکات و معارف کے رو جانی فیوض و برکات سے ہرہ مندر نہ ہو سکو گے۔ اس کا راستہ بھی صبر ہی ہے۔

### خدا کی آگ سے جلی ہوئی قبر نزدید

چند صدیاں قبل مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک خرابہ اور دیرانہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں نزدید کی قبر ہے۔ اور اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جو شخص اس راہ سے گذرے اور کوئی حاجت رکھتا ہو تو ایک پتھر یا ڈھیلہ یہاں پھینکدے اس کی حاجت

پوری ہو جائے گی اسی وجہ سے یہ ایک مزبدہ بن گیا ہے۔  
اب ہمارے زمانے میں تو قبر کی وہ جگہ بھی موجود نہیں ہے،  
جس وقت بنی عباس شام میں پہنچے تو بنی امیہ کی تمام قبروں کو  
کھو دکے ان کے جنائزوں کو جلا دیا تھا۔ نزدید کی قبر کے اندر ایک  
وقت آدم طیاری میں خدا کی آگ سے جلی ہوئی راہکی صرف ایک بکیر  
موجود تھی الہذا مولیٰ مورخین عالمہ کی تحریر کے مطابق اُسے پر تکر دیا  
گیا اور وہ چند سال پہلے تک ایک خوبی کی صورت میں رہا۔ لیکن  
اب وہ تو خرازی بھی نہیں ہے۔ ۳۷

### تین وقوٹا میں زمین کے تین نالے

یہی زمین جس پر تم راستہ چلتے ہو۔ بظاہر سورا درگویانی کی طاقت  
نہیں رکھتی۔ میکن اس کا باطن مومن اور کافر کو پہلو اتنا ہے۔ کیا تم نے  
نہیں سنا ہے کہ زمین تین اوقات میں تین قسم کے لوگوں سے نالکرتی  
ہے؟ ایک اس وقت جب کسی مظلوم کا خون اس پر بہایا جاتا ہے۔  
دوسرے اس وقت جب اس پر زنا کی رطوبت گرا کی جاتی ہے۔  
اور تیسرا اس وقت جب کوئی شخص طلوع صبح سے طلوع آفتاب  
تک سوتا ہے اور دو رکعت نماز صبح پڑھنے کیلئے نہ اٹھتے۔

۲۵ - نَفْعَلُهُ دَاءِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ سُورَةُ النَّعَمَ آیَتٌ

۳۶ - كَتَابُ إِيمَانٍ

۵۸۵ - عَلَيْهَا (الثَّالِثُ الْأَخْبَارُ مِنَ النَّوْمِ بَيْنَ الطَّلَوِينِ

روایت میں ہے کہ جس وقت مومن کے جنائزے کو قبر میں اتار کے چلے جاتے یاں تو قبر (یعنی خود زمین) بات کرتی ہے۔ قبر کی ملکوتی قوت مومن سے کہتی ہے کہ، اے مومن! تو میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں فخر کرتی تھی کیونکہ تو میرے اوپر خدا کی عبادت کرتا تھا اور مجھے شاد کرتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ تو میرے شکم میں آئے تھا تو میں اس کی تلافی کر دیں گی۔ اب یہ میری تلافی کا موقع ہے ملکوت قبر حد نکاح تک وسعت پیدا کر دیتا ہے (حد البصیر) اور اگر اس کے بعد میں دہ تارک الصلوٰۃ تھا تو ملکوت قبر کہتا ہے کہ تو میرے اوپر راستہ چلتا تھا تو میں تیری وجہ سے فریاد کرتی تھی۔ اب اس کی تلافی کا موقع ہے، چنانچہ وہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے جیسے کسی دیوار میں میخ ٹھونک دی جائے۔ مسخرت ہے یہ فشار جس میانے بد نصیب بتلا ہے۔

### ملکوت قبر کی نور اور فرش

یہ خیال نہ کرو کہ اشیاء میں شعور نہیں ہے یا عالم کو درد دیوار میں تو شور دادر اک اور لطیق ہر جگہ پھیلا ہوا ہے میکن ملکوت میں نہیں ہے تاکہ جو لوگ وہاں ہیں وہ تن سکیں۔ جو لوگ عالم بزرخ میں آجائیں وہ وہاں موجودات کی لفظت کو اور آوازیں سنکر ان کے لفظ کو سمجھتے ہیں۔ وہ زمانہ آئے والا ہے جب زمین کی آواز کو تم خود مجھی سنو گے جس وقت تھا رای قبر میں کہے گی "نمذومة العروس"

سلہ بخار الانوار جلد ۴۔

اگر مومن مرد ہے تو کہے گی، دامادوں کے ماننے آرام سے سو جاؤ۔ اور اگر عورت ہے تو کہے گی، دُھنوں کی طرح سور ہو۔ بے سبب نہیں ہے کہ ماہ صیام کی راتوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح کہتے ہیں "ابکی نظمت مد قبری" یعنی میں اپنی قبر کی تاریکی کھلائے رہتا ہوں "لما فرش شہ بالعمل الصالح" جس کے لیے میں نے عمل نیک کا کوئی فرش نہیں بھیجا ہے، نہ میں نے اپنی قبر کیلئے ایمان کا نور بھیجا ہے تھا تو قوی کی روشنی میری قبر کیلئے تو ملکوت قبر ہی کافرش ہو گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی قبر کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کی اندر ورنہ اور حقيقة منزل کو اڑاستہ کرو۔ خواہ اس کا ظاہر ایک خراب ہو، سڑھی یا ٹوپی مثی ہو مگر مانی فرش اور یہ سبب بغیر عمل صالح کے انجام نہیں پاسکتا۔ جو کام نہ خدا کیلئے کیا ہے گو اپنی قبر کے جوڑہ نہ زین کیا ہے ملے

### تین گروہوں کی حضرت بہت سخت ہو گی

تم نے یہ روایت سنی ہو گی کہ تین گروہ ایسے ہیں جن کی حضرت قیامت میں سببے زیادہ ہو گی۔ اقل ہر وہ عالم اور واعظ جس کے علم اور نصیحت پر دوسروں نے تو عمل کیا لیکن وہ خود دنیا سے بے عمل اٹھا۔ وہ قیامت کے روز جب یہ دیکھ کر دوسراے لوگ اس کے وعظ اور علم کی کرتے ہے جتنی بن گئے تیکن خود اس کو دوزخ میں پہنچ جائے ہے یہاں تو نسخردی خجالت ہو گی؛ وہ آرزو کرے گا کہ اسے جلد از جلد حیثیت میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھیں۔

دوسرے دہ مالدار جس نے اپنے ماں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اُسے چھوڑ کے چلا گیا۔ میکن اُس کے والوں نے اُسے خیرات اور نیک اعمال میں صرف کیا۔ زحمتیں اُس نے اٹھائیں اور فائدہ دکھل دے حاصل کیا اور کل بھی اس کی حضرت اس کے ساتھ ہوگی۔

اور تیسرا وہ آقا ہے جو اپنی بے عکلی کی وجہ سے عذاب میں بدلنا ہوگا لیکن اس کا غلام ثواب کے عالم میں ہو گا۔ یہ وہ روحانی عذاب ہیں جو عذاب جہنم سے قطع نظر اور اس سے بھی بدرہ ہیں۔ زندگی بھر تو وہ کھنارا ہاں میں آقا ہوں، میں ماںک اور مخدوم ہوں، میرے پاس دُکر اور کینزیں ہیں۔ میکن اب انھیں خدمت گزاروں کو دیکھا ہے کہ دراصل آقا اور مخدوم دہی ہیں اور خود بدجنت اور پست دشیں ہے۔ ۳۷

### رحم مادر اور عالم دنیا دنسیا اور برزخ کے ماند

ایک اور صورت عبرت حاصل کرنے کی یہ ہے کہ جب ہم رحم مادر میں تھے اُس وقت اگر ہم سے کہا جاتا کہ اس مدد چار دلواری کے باہر ایک ایسی وسیع فضام موجود ہے جس کا قیاس اس تنگ مکان کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا وہاں طرح طرح کی کھانے اور بینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس عذاب سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں جو یہاں تمھیں ناف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو کیا ہم ان مطالب کو صحیح طور سمجھ سکتے تھے؟

اسی طریق یہ بھی جان لو اور سمجھو کہ عالم بزرخ میں تمہاری منزل ایسی ہی ہو گی جسے شکم مادر کے مقابلے میں یہ عالم دنیا ہے جب تم پیدا ہوتے اور شکم مادر سے باہر نتے ہو تو ایک الیسے عالم میں وارد ہوتے ہو جسے نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا تھا ان کافلوں نے ساتھا پہاں تک کہ تمہارے دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ نور درنوؤ اور لذت درلذت ہے۔ اور ہر طرف آثار جمال مشاہدہ کیے جاسکتے ہیں ہے۔

### محبت یا غصے کے ساتھ قبض روح

جب خدا موت دیتا ہے اور قبض روح کا وقت آتا ہے تو لوگوں کی رو جس دو طریقوں سے نکالی جاتی ہیں۔ بعض کی ہر محنت اور رحمت کے ساتھ۔ اور بعض کی قہر و غضب اور شدت کے ساتھ البتہ دونوں کے لیے کچھ مرتب اور درجات ہیں۔ پہاں تک کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ، عزائیں (ملک الموت) کے معادن فرشتے کفار کی جانیں نکالنے کے لیے آتشیں حربوں کے ساتھ آتے ہیں یہ اور انکی رو جس انھیں آگ کے حربوں سے قبض کرتے ہیں۔

مہریانی اور رحمت کے ساتھ جان نکالنے کے بھی کئی درجے ہیں، اس حد تک کہ فرشتے بہشتی بھلوں کا گلہ سدہ اپنے ساتھ آتے ہیں تھے۔ یہ رحمت کی خوشبو میں اور انعامات داکرات جس مرنے والے

۱۔ سراء دیگر ص ۳۲۲، ۲۔ فلکیف اذالوفتهم الملائکہ یافہ بولن در جم واد بار ہمد سونہ۔ آیت ۲۲۷، ۳۔ الدین بن تشویفthem الملائکہ (طیبین یافہ بولن سلامہ علیکم سونہ محل آیتے ۲۸،

میکھیے جیسا کیسے جاتے ہیں وہ کس قدر صورت شکل میں آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے ایک شی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی شکل صورت خود اس مرنے والے کے جمال کے مطابق ہوتی ہے، تاکہ جس قدر اس کا جمال ہو۔ اسی قدر ان کا حسین جلوہ سامنے آئے۔ اس سے بالآخر یہ بات بھی کہدیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا انداز بھی یہی ہے کہ تم نے اپنے اندر جس قدر جمال پیدا کیا ہوگا، اچھی صفتیں اختیار کی ہوں اگر، عالم وجود میں مردانہ دار زندگی بسر کی ہوگی دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کیا ہوگا، اپنی عمر میں جس قدر صابر، باد فار، حليم و بردبار اور شاکر رہے ہوں گے۔ اور عقل و داناتی کا حاصل کیا ہوگا، اُسی کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھو گے، پھنسا ٹھیک رخدا نخواستہ اپنی سفاقت، بد مراجی، قادات قلب اور بد حالی کی مناسبت سے ملک الموت کی سختی اور درشتی کا سامنا کرنا پڑا تو خداوند کردار حضرت علی علیہ السلام کے قهر و غضب کی صورت بھی دیکھنا ہوگا۔

تم تھاری تبر کی صورت حال بھی یہی ہے۔ نیکر اور منکر کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ دونوں فرشتے ایک ہی حالت میں آتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ جس شخص کے بالیں پڑتے ہیں خود اسی میت کے حالات و کردار کے مطابق آتے ہیں۔ یہ دونوں ملک، لیکن خود تھاری وضع کے نمونے۔

تم دعایں پڑھتے ہو کر خداوند! میں بشیر اور مبشر کو دیکھوں یعنی دیکھنا یہ ہوگا کہ تمہیں کیا بن کے رہنا ہے؟ آیا ساری عمر آدمی بن کے گزاری یاد رنده بن کے؟ یہ دونوں فرشتے بعض اشخاص کی قبر نمیں

انہائی سخت درخت اور جیب ترین شکلوں میں آتے ہیں۔ ان کے بال زمین پر کھنچتے ہوں گے، ان کے دہنوں سے اثر دہنے کی مانند آگ کے شعلے نکلتے ہوئے، ان کی آنکھیں خون سے بیرون کا سوں کے مانند اور آگ اگلتی ہوئی یعنی خود میت کے باطن کے مطابق، کسقدر شرپری، بہرہ دہ، موڈی، گرگ صفت اور چینے کی سی خصلت کا حامل تھا یہ شخص؟ بہر حال جو کچھ بھی تھا اپنی اقتداء طبع کے مطابق تھا۔ بہت ہی محیب ہے عالم ملکوت اور مرنخ۔ یہ ساری چیزوں حقائق ہیں اور ہمارے ہی باطن اور ملکوت اعمال، جو صورت اختیار کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔

و من کے لیے بشیر اور مبشر پیش جو اسے پروردگار کی بے انہتا رہتوں اور ثوابوں کی بشا رت دیتے ہیں ۲۰

سوال ۱۔ ایک شخص ایک ہزار سال قبل مر جکا ہے اور ایک شخص آج متراہے تو کیا عالم بر زخم دونوں کے لیے یکساں ہے؟ اور ساتھ ہی مشائی جسم کی تو وضع بھی فرمائیے۔

جواب ۱۔ عالم بر زخم میں قیامت کبریٰ تک ارواحوں کے شہر نے کی بذلت یقیناً مختلف ہے۔ لیکن روز جس بر زخم میں قیامت تک معطل نہیں ہیں ہیں۔ بلکہ یا تو بر زخمی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں (اگر وہ کناؤں سے پاک ہو تو کہ اسکے ہیں) یا بر زخمی عذابوں میں گرفتار ہیں لیکن اگر کوئی مرنے والا مستضعفین میں سے تھا۔ یعنی حق و باطل کی تیزی کی قدرت نہیں رکھتا تھا، یا جس طرح چار ہیئے اُس پر محبت تمام

نہیں ہوئی تھی، جسے وہ لوگ بوجو بلاد کفر میں رہتے ہیں اور مذاہب کے اختلاف سے کوئی آنکاہی نہیں رکھتے، یا انگریز سے باخبر بھی ہیں تو دوسرے مکلوں یا شہروں میں جانے اور دین حق کا تجسس کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، اسی طرح نابالغ بچے اور مجنون اشخاص، تو ایسے لوگوں کے لیے بزرخ میں کوئی سوال اور عذاب دلواہ نہ ہوگا۔ اور ان کا معاملہ قیامت پر اٹھار کھا جائے گا تاکہ دہان خدا کے تعلالے اُن کے ساتھ اپنے عدل یا افضل کے ذریعے معاملہ فرمائے۔ قالب مثالی سے مراد وہ جسم ہے جس سے مرنسے کے بعد روح اپنا تعلق قائم کرتی ہے۔ وہ ایسا جسم ہے جو صورت میں دنیاوی جسم کے ماندہ ہے؟ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا، "کو رائیتہ اللقدتے ہو ہو عینہ" یعنی اگر تم اسے بزرخ میں دیکھو تو کہو گے کہ یہ تو عینہ وہی شخص ہے یعنی شکل و صورت کے نحاظ سے جس قدر دنیا کے مطابق ہے یعنی مادے کی حیثیت سے مکمل صفائی اور لطافت رکھتا ہے۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ، یہ لطافت میں جن اور ملائکہ سے مشابہ ہے نیز فرماتے ہیں کہ روایات و اخبار میں وسعت قبر روح کی حرکت، ہوا میں اس کی پرداز، اور اپنے گھر والوں کے دیدار کے بارے میں جو کچھ دارد ہوا ہے وہ سب اسی جسم سے متعلق ہے، بعض محققین نے لطافت کے نحاظ سے بزرخی جسم کو اس صورت سے تشبیہ دی ہے جو آئینے میں منعکس ہوتی ہے سو اس کے آئینے کی صورت کا وجود دوسرے وجود کے ذریعے

قائم اور فہم دار اک سے محروم ہوتا ہے بلہ

تین چیزیں بزرخ میں بہت کام آتی ہیں

ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسٹر کے ساتھ ارشاد فرمایا، کہ میں نے جمزة سید الشہداء اور جعفر طیار ان دونوں عزیز شہیدوں کو دیکھا کہ بہشتی انگوروں کا ایک طبق ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ انھوں نے ان میں سے کچھ کھایا، بھروسہ بہشتی رطب بن گئے اسے رطب جن میں نہ تھملی ہوتی ہے نہ کوئی نقل اور گرانی، اور انکی مشکل جیسی خوبصورتی فرستخ تک جاتی ہے۔

آنحضرت نے فرمایا کہ، میں نے اُن سے پوچھا اس مقام پر کون سی چیزیں تمھارے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہیں؟ تو جمزة نے کہا، تین چیزیں ایسی ہیں جو بزرخ میں بہت ہی فرجت انگیری ہیں۔ اول، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، (خداؤند ابو ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو بڑھادے جو دردھ کی طرح اترجمائے اور جالوں کے ساتھ باہر آئے) دوم محمد و آل محمد علیہم الصلوات و علیہ السلام پر صلاة بھیجنا۔ اور سوم، کسی پیاس سے کوپانی پلانا۔ اگر کوئی شدائد سامنے آجائے تو اس کی تشنی دو رکرو، یہ بزرخ میں تمھارے بہت کام آئے گا۔ جو شخص ایک دل کو خنک کرے گا کل اس کی قبر میں اس کا دل خنک ہو گا۔

بخل کا بزرخی فشار ایسا ہے جیسے دیوار میں تنخ  
ہمیں چاہیے کہ اپنی پچھلی کوتا، میوں سے تو بہ کوئی، کتنے ہی مواقع

ایسے آئے کہ کار خیر اور داد دہش کرنا ہمارا فریضہ تھا لیکن یہ نہیں کیا۔ ہم کتنی آگ اپنی قبر کے لیے بھیج چکے ہیں۔ دوسروں کے حالات پر غور نہ کرو بلکہ خود اپنی بخوبی کرو تم نے اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے کس شخص کے بارے میں کتنے محل سے کام لیا ہے اور اپنی قبر کو تنگ کیا ہے۔ جب موت آجائے گی تو وہاں کوئی فراخی اور سعدت نہ ہوگی۔ بلکہ جیسا روایت بتاتی ہے بخوبی آدمی کافتا راتنا سخت ہو گا جیسے کوئی میخ دیوار میں ٹھونک دیجائے۔

### دنیا میں ححال اور برزخ میں بادشاہ

ایک حکایت میرے ذہن میں آئی جو ایک بزرگ انسان سے منقول ہے کہ میں نے ایک رات دائمی طور پر برزخی جنت کا ایک منظر دیکھا۔ دہاں میں نے ایک عالیشان محل دیکھا جس کے راستے بہت کمیع تھے، سرفلک درخت لگے ہوئے تھے اور طریق طریق کے میوے اور ارشیاً نور دنوں میں جہتیاں تھیں۔ اس عمارت کے بالاخانے پر ایک بزرگ انتہائی عظمت و وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں یہ حالات دیکھ کر سوچنے لگا کہ غالباً آن کا ہماری دنیا سے تعلق نہیں ہے، اور یہ سرت میں پر گیا کہ خدا یہ کون شخص ہے؟ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے اسکی حقیقت سے آگاہ فرمادے، ناگاہ خود انھیں بزرگ نے آواز دی کہ ”انا الحتماں“ میں دنیا میں بار برداری کا کام کرتا تھا اور پیٹھ پر بوجہ لا دکم کے ادھر سے اُدھر پہنچاتا تھا جو لوگوں کے نزدیک ایک نیست اور حقیر ترین پیشہ ہے۔

### وہ آگ جو قبر سے شعلہ زن ہوئی

دارالسلام عراق میں قاجاری دربار کے امکان کے بارے میں یہ واقعہ درج ہے (ہنگ حرمت کے خیال اُس درباری کا نام نہیں لے رہا ہوں) کہ اس کا جہازہ تہران سے قم لائے، اُس کے لیے ایک جمرہ حاصل کیا۔ اور قبر پر ایک قاری میعنی کیا۔ ناگہاں اُس قاری نے دیکھا کہ قبر سے آگ کے شعلے باہر نکل رہے ہیں لہذا اُس نے دہاں سے فرار اختیار کیا اس کے بعد لوگ اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے کہ قالین اور جو کچھ جمرے میں تھا سب حل گیا ہے میکن اس انداز سے کہ بھی نہ یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا وغیرے حکارت نہیں تھی بلکہ اس کی قبر کی آگ اور تک آئٹی تھی۔ اس کی قبر آگ سے اس طرح بھر گئی تھی کہ اس کا اشر باہر تک پہنچ رہا تھا۔ تم نے آگ کے پیچ بوجے ہیں میکن ان سے پھول حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہاری قبر کے اوپر ایک ہزار گلدستہ بھی سجادہ جائیں تو اس سے تمہاری باطنی کشاقوں پر کیا اشپر ٹرتا ہے؟ البتہ اس طرح ہم اپنے دل خوش کر لیتے ہیں۔ خدا کے لطف و کرم کے امید دار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر غور سلط ہو جائے انسان کو ہمیشہ امید و یہم کے درمیان رہنا چاہئے بلکن ہے خدا کی نظر لطف ہو جائے۔

### غصہ کو ضبط کرنا آگ کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔

غصہ ضبط کرنے کی ملکوئی صورت قبر کی آگ پر پانی ڈالنا ہے غیظ و غضب کی حالت میں اپنے اوپر قابو رکھو، اپنی ذات کو بلے لگانے نصبوڑ اپنے سکون اور رأسالش کی حفاظت کرو، اٹھو اور اپنی راہ لو، پانی پی لو، اپنی

حالت میں تغیر پیدا کرو، سنی ہوئی بات کو ان سنی کر دو، درد کہیں  
الیسانہ ہو کر قطع رحم کے مرتكب ہو جاؤ، صدر حرم کے ذریعے اپنی آتش قبر  
کو سرد کرو! خلاصہ یہ کہ ہر گناہ بدل صراط سے نیچے گرنا ہے یہ بہشت کی راہ  
صلح و صفائی ہے، ہبھم کا راستہ نزاع، جنگ و جدال اور طیش میں آنا ہے  
اب یہ تم خود جانتے ہو کر کون سارا سستہ چنانچاہی میں لے بغیر احسان جتنا نہ  
اور اذیت دینے کے سخاوت اور جود و کرم را بہشت ہے جہت تک  
جانے کیلئے صراط کی سہولت اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی  
زبان سے اچھی بات کہو، امانت دار بنو، اور اس کے اُسکے عیوب کو  
چھپاو! البتہ اس کے برخلاف دوزخ کا راستہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو  
کہ خدا کا قہر و غضب تم سے دور رہے تو خود لینے کو غضب سے دور رکھو۔  
مردی ہے کہ ایک شخص عذاب اور آتش ہبھم میں گھرا ہو گا۔ اس حالت  
میں آذار آئے گی کہ میرے پاس اس کی ایک امانت ہے، پونکہ اس نے  
میرے لیے اپنے غصے کو فرو کیا تھا لہذا آج اس کی تلافی کا دن ہے۔

### پوشیدہ صدقہ اور عذاب کے خوف سے گریہ۔

جو چیزیں تھماری آتش قبر کو خاموش کرتی ہیں انہیں سے ایک "صدقۃ المیر"  
ہے، یعنی خداگی راہ میں پوشیدہ طریقے سے صدقہ اور خیرات دینا جس کی تعبیر  
اس طرح کی گئی ہے کہ دینے والے ہاتھ کی خبر دسرے ہاتھ کو بھی نہ ہو کسی اور  
سے بھی ذکر نہ کرے۔ یہاں تک کہ خود اپنے سے بھی نہ کہے اور حدیث نفس  
ہ کرے یعنی اسکو بالکل فراموش کر دے۔

لہ اتہاد یتہ السبیل امدادا کو اراما کفورد۔ سورہ دہرا پت ۳

مبحلم چیزیں دل کے جو آگ کو خاموش کرتی ہیں آنسو کا وہ قطرہ ہے جو تم نہ  
خوف خدا سے گرایا ہو۔ اپنی برائیوں کو یاد کرو، طرح طرح کے عذاب فی عقاب  
کا نصویر کرو، اگر تھمارے دل پر خوف طاری ہو جائے جسم میں لفڑہ  
پیدا ہو جائے اور خدا کے اس خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بھی  
گر جائے۔ آجی عذاب کے بھر کتے ہوئے شعلوں کو خاموش کر دیکا۔  
ہوئی پرستی صراط سے دور لے جاتی ہے۔

اس ہوئی پرستی اور خود غرضی کا مطلب بھی صراط سے گر جانا ہے۔  
آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟  
ہو اپرستی انسان کو قعر جہنم کی طرف کھینچتی ہے تھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دل  
چاہتا ہے، اپنے دل کی ہوس کے پیچے دوڑتا ہے اور حرام و حلال کا ساحتاں ہیں  
کرتا اس سے کی عاقبت اور انعام یہ ہے کہ وہ آگ کا راستہ احتیا کر لیتا ہے اور  
خدا کی بندگی اور راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ یسین میں خدا کی  
بندگی کو صراط مستقیم بتایا گیا ہے، ایک بندے کی طرح زندگی بس کرو، گردن  
کشی نہ کرو، اپنے کو آزاد طلق اور مستقل حیثیت کا مالک نہ بھو، اور خدا کی  
مطلق حاکمیت نہ بھو۔

### گنہگار حقیقی غاصب ہے

جس ہستی نے تمہیں زیان عطا فرمائی ہے اس نے اس کے استعمال کیلئے پچھڑ دو  
لہ افرأیت من اتخدن اللہہ ہواہ۔ سورہ جاثیہ آیت  
۶۷۔ لہ فاما سہ حدا و یہ سورہ قارعہ آیتے ۶۸۔

بھی معین فرمائے ہیں۔ حقیقی عاصل کون ہے؟ وہ شخص ہے جو خدا کے اس عیطے اور امامت سے فرش یا تین کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیرت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بغیر علم کے بات کہتا ہے، اور لوگوں کی آبرو میزی کرتا ہے۔ یہ سارے تصرفات غاصبانہ ہیں، یہ تمہارے خدا کی عکس ہے اس پر تمہارے تصرفات اور اختیارات محدود ہیں۔ اسے مکمل طور بر لاسکے حقیقی مالک کے نیڑا شر ہونا چاہیئے لہ

### جہنم دشمنان علی کیلئے ہے

ارشاد ہے کہ اگر تمام خلق علی کی دوستی پر مجمع ہو جاتی (اد علی علی اللہ السلام کی دوستی کے ساتھ دنیا سے جاتی) تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یقیناً جہنم دشمنان علی کیلئے ہے۔ اگر تم پوچھتے ہو تو علی کے دوست تو بہ کے ساتھ مرتے ہیں، اور خود محبت علی اس دنیا سے قوبہ کے ساتھ اٹھنے کی موجب ہے اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہاں سے کوئی شخص آلوہہ گیا تو بزرخ میں پاک ہو جاتا ہے۔

### علی کا کار دست جہنم میں نہیں رہے گا۔

حققتی فرماتے یاں کہ جہنم میں خلود یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا ان انکے لیے ہے جو علی کے دوست نہیں ہیں۔ اور شاید حدیث کے معنی بھی یہی ہوں کہ، علی کی دوستی کے ساتھ کوئی گناہ اُسے ہمیشہ جہنم میں نہیں روکتا۔ اس کیلئے کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو آگ میں رہنے کا سبب نہ فواہ یہ رہا۔ تھے تیس ہزار سال کے عذاب کے بعد ہو۔

بہشت اور دوزخ کی کنجیاں علی کے ہاتھ میں اخطب خوارزمی اور شبلی نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے روز یہ سے یہے ایک بہت دلیع منبر نصیب کیا جائے گا جس میں شوشینے ہونگے۔ سب سے بلند زینے پر میں پیغمبر کا دوسرا رینے پر علی ہوں گے اور سب سے نیچے والے زینے پر دوسرستہ پیٹھے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کہیکا کارے محشر والوں میں رضوان خازن بہشت ہوں گے۔ اور بہشت کی کنجی میرے پاس ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ جنت کی کنجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو پیش کر دوں۔ اور دوزخ کی کنجی گاک، میں مالک دار و غیر بھئم ہوں۔ اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ دوزخ کی کنجی محمد صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے سپر کر دوں۔ اخفرت کا ارشاد ہے کہ میں انھیں یکری علی ہابن ابی طالبؑ کو دید و نکا۔ اور خدا نے تعالیٰ کے قول: «القیام فی جہنم ملک کفار عنید» (یعنی القیام یا محمد و علی فی جہنم....) کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد اور اے علی تم دونوں ہر سر کش کافر کو دوزخ میں ڈال دو۔

### نزرگان دین قیامت کی برہنگی سے ڈرتے ہیں۔

کتاب حوالہ الزلفی میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جمع عورتیں محسورہ ہونگی تو برمہنہ ہوں گی۔ اس پر جناب ناظمہ تہمہ علوت ہبھا نے گھر یہ کرنا شروع کیا اور فرماتی تھیں: «وَاضْعِنَا» اس وقت جب تک امین پیغمبر پر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ، خدا نہ ہر اک سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم

بدول کیلئے بدترین اور حمیب ترین صورت دہشت میں آتے ہیں۔  
میری عرض نکر کی مناسبت سے ہے۔ یہ آیت گنہگاروں کے بارے میں ہے  
جو ایسے امر کی جانب بلایہ جائیں گے جو اضطراب اور فریاد وزاری پیدا کرنے والا ہے  
اور وہ روز حساب کا ہوں ہے۔ لہ  
**بکھری ہوئی طلاقیاں۔**

**خشوع الصالحہم۔** سخراجون من الاعداث کانہم جراحت  
منقشر۔ یعنی درحالیکہ انکی آنکھیں خاشع اور جھکی ہوئی ہوئی خشوش  
ایک قلبی امر ہے جس کا سچشمہ دل ہے اور اس کا اثر اعضاء و جوارج سفارہ  
ہوتا ہے خشوش سب سے زیادہ آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہے کیونکہ دیگر اعضاء  
کے مقابلے میں قلب سے آنکھ کا بیٹڑا زیادہ ہے۔ شرخ کی خوشی اور غم اور  
شرم و حیا کو اس کی آنکھوں میں پڑھا جاسکتا ہے اسی بنا پر خدا کے تعالیٰ  
خشوش کو آنکھوں سے نسبت دیتا ہے جبکہ یہ دراصل قلب سے ہر بوطہ ہے۔  
چونکہ ذلت اور بدستی کے آثار بھی آنکھوں پر طاری ہوتے ہیں لہذا فرماتا ہے کہ،  
”آنکی آنکھیں خاشع اور جھکی ہوئی ہوں گی۔“ وہ قبروں سے باہر آئیں کے ”احد  
حدوث کی تجمع ہے جس کے معنی قبر کے ہیں۔“ درحالیکہ وہ بکھری ہوئی ٹھڈیوں نے  
ماند ہوں گے؛ یہ ٹھڈیوں کے خصوصیات میں سے ہے کہ وہ پرواز کے وقت غسل  
اور سرگردان ہوتی ہیں۔ لیکن تم نے دیکھا ہو گا کہ وہ باہمی تنظیم و ترتیب کے  
ساتھ درود یا برپوٹ پڑتی ہیں۔ اور تمام چیزوں کو کھاجاتی ہیں اور اسی سبب  
سے انہیں سے اکثر ہلاک بھی ہو جاتی ہیں، خدا نے تعالیٰ قبروں سے باہر آنے کے وقت

زہرا کے ضامن ہیں کہ انہیں روز قیامت دو بہشتی حلقہ پہنائیں گے۔  
امیر المؤمنین علیہ السلام کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد جو ایک ایسی بی بی تھیں جنہیں  
ولادت فرزند کے موقع پر خانہ بکھر کے اندر بلایا گیا اور وہ شیش شانہ روزہ ہاں مہماں  
رہیں، اور جو بیوی بکھر کیلئے ماں کی حیثیت رکھتی تھیں قیامت کی بہنگی سے خوفزدہ ہو کر  
حضرت رسول اللہؐ کے سامنے رونے لگیں اور آنحضرت سے بنیاء طلب کر کے خواہش  
کی کہ آپ انہیں اپنے پیرا ہن کے ایک پارچے کا کفن دیں۔  
ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب سفر آخرت کیلئے آمادہ ہوئیں تو جابر  
فاطمہ زہراؓ کو جو اس وقت سال کی تھیں پیغمبر خدا کی خدمت میں بھجا اور  
کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ میری ماں کہتی ہیں، آپسے میری خواہش اور درخواست یہ  
ہے کہ مجھے اپنے پیرا ہن کا کفن دیں تاکہ مجھنے میں برمہنہ نہ اٹھوں۔ یہ ہے روز  
قیامت سے بزرگان دین کے خوف کا ایک نمونہ۔ وہ دن جو بہت سخت ہے  
اور جس کے بارے میں نہاد ارشاد فرماتا ہے جس روز اللہ کی طرف سے ایک  
بلانے والا ایک نشدت دنایاں دیدہ امر کیلئے بلاے گا، نکر مادہ انکار سے  
ہے جس چیز کو انسان خلاف معمول اور بری جانتا ہے اور وہ اسے خوف افطراب  
میں مبتلا کرتی ہے اسے نکر کہا جاتا ہے (ایک قرأت مکون کاف کے ساتھ بھی ہے)۔  
اویلان دو فرشتوں کو بھی جو کفار کیلئے قرب کی پہلی شب میں آتے ہیں اسی میابت  
سے بکھر کر لا رہا منکر کہا جاتا ہے (چنانچہ مر جنم فیض اور دیگر حضرات کا قول ہے کہ فرشتوں  
کا آنا ہمت کے عمل سے متعلق ہے۔ اگر مر نے والائیکو کا رہے تو بیش اور مشروطہ  
نکر اور منکر ہوتے ہیں۔ یعنی وہی دونوں فرشتے ہوئے کیلئے ایسی صورت میں بشارت  
کیلئے اور کافر اور فاسق کیلئے خوفناک صورت دہشت میں عذاب الہی سے  
درانے کیلئے آتے ہیں، ورنہ ہیں دونوں طرح کے فرشتے ایک ہی۔ جیسے حضرت  
عمر ایں جو درحقیقت ہیں ایک ہی لیکن نیکوں کیلئے بہترین صورت میں اور

انسانوں کی حالت کو ٹڈیوں سے تشبیہ دیتا ہے کیونکہ وہ حیرت زدہ ہوں گے  
اللہ چینز میں دیکھیں گے جو بھی نہ دیکھی ہوں گی اور ایسی جگہ جایں گے جہاں کبھی نہ  
گئے ہوں گے۔ اسوقت اولین و آخرین سمجھی جمع ہوں گے لہ

## وہ لوگ جو مضطرب نہ ہوں گے

ہاں مرف کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی اضطراب نہ ہوگا۔ وہی  
لوگ جمہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہے۔ اور خدا نے تعالیٰ نے  
ان کے دلوں میں سکینہ اور قرار کو جا گزیں کیا ہے۔ اور وہ اسی حالت کے  
ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں عقیدے اور عمل  
کے لحاظ سے متزلزل ہے تو یقین رکھو کہ اسے آخرت میں بھی اضطراب لا جھوڑ  
ہو گا۔ اللہ پھونکہ وہ ادھر یا ادھر کسی جانب مستقل نہیں ہے بلکہ اسکی عقیدے  
کے اضطراب کے ساتھ مر گیا تو اسی طرح میدان جوش میں بھی مضطرب وارد  
ہو گا۔ لہ۔ ۵۶۔

## قیامت کا عذاب بہت سخت ہے

”والستاعۃ ادھی واصر“ تاکید کیلئے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ، قیامت

لہ کتاب حقائقہ از قرآن ص۵۹

۱۷ هؤاللذی انزل السکینۃ فی قلوب الظُّمَّنِینَ۔

۱۸ من کان فی هذنہ اعْمَلَ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ اعْمَلَ۔

۱۹ كمَا تَعْيَشُونَ تَعْرُقُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تَبْعَثُونَ۔

۲۰ کتاب حقائقہ از قرآن ص۶۰۔

ادھی ہے، جس خوفناک اور مضطرب کرنے والی مصیبت سے فرار اور  
خلاصی کا کوئی راستہ نہ ہوا اسے داہمہ سختی ہیں اور ادھی اس کا فعل التفضیل  
ہے یعنی ہر وہ سختی اور غیر معمولی عذاب جس کا دنیا میں مشاہدہ ہوتا ہے۔  
قیامت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی شخص ان بلاوں میں  
بتلا ہو گا تو دنیا کے عذاب کو بھجوں جائے گا جیسے کسی سانپ نے ڈس یا  
ہوتا وہ پھر کے کامنے کی بروانہیں کرتا۔ لہ

## طالبین حقوق اور قیامت

تم نے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر وہ بار بار  
بڑھا ہو گا کہ لوز قیامت ایک ایسا دن ہے جس میں ہر فرد بشر کو بلند کیا  
جائے گا تاکہ تاک سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد ایک منادی نہ اکریگا  
جو شخص اس شخص پر کوئی حق رکھتا ہو وہ آجلتے۔ اسوقت اپنے حقوق طلب  
کرنے والے اس کی طرف رُخ کریں گے۔ جن لوگوں کے بارے میں شاید  
ذاتی طور پر اسے خود بھی حتماً نہ ہو گا کہ میں نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں  
اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اس نے کسی کی ابر و زیری کی ہو گئی۔ کسی کی  
غیبت کی ہو گئی، کسی کا مال کھایا ہو گا۔ یا کسی کا قرضدار بہو گا۔ اور اسے  
بھجوں گیا ہو گا، یہ سب اس سے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس  
بیچارے کو انھیں اپنی اپنی نیکیوں میں سے دینا ہو گا۔ مونے کے طور پر  
روایتوں میں وارد ہے کہ ایک درہم مال کے عوض مقبول نمازوں کی شکست مو  
رکعتیں دیتا ہوں گی۔ اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو گی۔

آخر، مُس سے بنائے ہے جس کے معنی ہیں تلخ، اور اَهَمَّ سے معنی یہ ہے بہت  
بھی زیادہ تلخ ہے۔ استقر تلخ کو بھائی بھائی سے، بیٹا مال باپ سے، نوجہ  
شوہر سے، اور شوہر زوج سے فرار کر دیکا لے۔ اس خوف سے کریم کہیں اپنے  
حق کا مطالبہ نہ کر سکتے ہے۔

## اعضاء کی شہادت

قیامت کا ایک موقف اعضاء و جوارح کا بولنا ہے۔ ہر شخص کا اعضاء  
اس کے افعال کی گواہی دیں گے اور اس پر قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ بلکہ حجوقت وہ شخص اعتراض کرے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے  
رہے ہوئے تو وہ ہمیں کہے گے کہ یہ ہم اپنے اختیار سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ  
ہمیں خدا نے گویا تی دی ہے۔

## اگ اور گمراہی مجرمین کے لیے

ان مجرمین فی ضلال و سعس۔ یعنی مشرکین یعنی گمراہی اور اگ میں ہیں۔ اگرچہ  
بغثت کے مطابق مجرم گنہگار کے ~~مکمل~~ ہے سینک آیات ماقبل کا قرینہ بتاتی ہے

لَهُ يَوْمٌ يَفْرَأُونَ أَخِيهِ وَأَمَّهُ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ  
لَهُ كِتَابٌ حَقَائِيقَ از قرآن ص ۱۹۶۔ لَهُ يَوْمٌ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ  
السَّيِّدُهُمْ وَإِذَا يَهُمْ وَاسْجَلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ سورہ ۲۳ آیت ۲۵  
لَهُ وَقَالَ الْجُبُودُ هُمْ لَمْ يَشَهَّدُوْهُمْ عَلَيْنَا قَالَ الْأَنْطَقَتْنَا اللَّهُ الدُّلْدُلُ انطق کل  
شَيْءٍ سوْرہ ۲۳ آیت ۲۳۔ ۵۔ کتاب حقائق از قرآن ص ۱۹۶

کہ یہاں مشرک مراد ہے، یعنی مشرکین حق سے گمراہی میں ہیں (فی ضلال  
مِنَ الْحَقِّ) دنیا کے اندر ان کی تمام حکومتیں دو دیہ یہ ہیں یعنی وہ اپنے ہی گرد تاباہی  
بنتے ہیں ان سے کوئی بہشت عمل سرزد نہیں ہوتا ہے جو ان کی پیش رفتہ اباعت  
ہے۔ ان کی تمام قوت غور ذکر دو لوت جمع کرنے، اور جاہ و منصب، اور شہرت  
و ریاست حاصل کرنے کیلئے وقف ہوتی ہے جس کا نتیجہ خدا کی راہ سے گمراہی ہے۔  
سع جنون کے معنی میں ہے۔ اور ممکن ہے دونوں سے دنیا کے اندر ضلال  
و سع مراد ہو اور اُن سے جنون کے معنی مراد یہے گئے ہوں۔ یعنی مشرکین  
گمراہی میں ہیں اور دیوانے یہیں چنانچہ بخارا لانوار کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت  
رسوی خدا کی ایک دیوانے سے ملاقات ہوئی تاپ نے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں  
نے کہا کہ یہ دیوانے تو انحضرت نے فرمایا۔ بل ہو مصائب، بل مصیبت زدہ  
ہے اور ایک بلا میں گرفتار ہے۔ اَنَّمَا الْمُجْنَوْنُ مِنْ أَثْرَ الْأَنْدَنِيَا عَلَى  
الْأَخْرَةِ۔ دراصل جنون تو وہ شخص ہے جو دنیا کو آخرت پر اختیار ہے۔

## نجات کا راستہ کھو دیتے ہیں ،

ضلال و سع کے دونوں معنی یہ ہیں کہ دونوں آخرت سے متعلق ہیں۔  
قیامت کے روز مشرکین بہشت کے راستے سے بچنے ہوئے ہیں اور اسے  
حاصل نہیں کر سکتے۔ لے  
یوم یسحیبون فی التَّارِیخِ وَجْوَهُهُمْ۔ یعنی جس روز مشرکین منہ  
کے بعد اگ میں جھونک دیئے جائیں گے وہ ایسا دن ہو گا کہ مشرکین کو  
لَهُ فَضُوبٌ يَدِنُهُمْ سَوْلَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ  
قبلہ العذاب۔ سو لہ باب باطنہ فی الرحمۃ و ظاهرہ من

کھینچتے ہوئے اگ کی طرف لیجا میں گے اور انھیں منہ کے بھل اسیں گلاریگے پھونک دہ دنیا میں حق سے روگردانی کرتے تھے لہذا ان قیامت کے روز انھیں جہنم میں اور ندھر منہ ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کھا جائیں گا کہ، ذوقواہ متن سق (اینی چکھو جہنم کی اگ کامزہ)

### چکھو اُش جہنم کامزہ!

سفر جہنم کانا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جہنم میں ایک بیان ہے جسے سفر کہتے ہیں لہ اور دوسرا روایت میں ارشاد ہے کہ سفر جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس نے خدا سے ایک سانس لینے کی اجازت مانگی۔ جب اسے اجازت مل گئی تو اس نے ایک ایسی سانس کھینچی کہ جہنم کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ باتیں کوئی قصہ کہانی نہیں ہیں بلکہ الیسی حقیقتیں ہیں جو ہمیں حضن جھوٹ کے رکھدیں تاکہ ہم ایسے خطرناک موقعت کے بازے میں غور و فکر سے کام لیں، اور ان سے امن و امان حاصل کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ موت کے وقت ملائکہ رحمت کا مشاہدہ نہ کر لیں اور رحمت خدا کی اواز نہ سن لیں کہ ہمیں بہشت میں طلب کیا جا رہا ہے۔

ہمیں ارام سے نبیطھتا چاہئے بلکہ ہمیشہ خوف کے عالم میں رہنا چاہئے کہ خدا نخواستہ دنیا سے بغیر ایمان کے انھیں اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائیں یا کوئی شخص بھی یا طینا رکھتا ہے کہ بہترین حالات میں اُسکی موت آئے گی پسے

### قیامت میں منتشر اجزاء پھر جمع کیے جائیں گے

عجیب بات یہ ہے کہ اجزاء اور ذرات دوبارہ منتشر ہو جاتے ہیں جس وقت چاول یا گیوں باپ کے گلے سے نیچے اترتا ہے تو جسم کے تمام اجزاء اور ذرات میں منقسم اور منتشر ہو جاتا ہے پھر اسے دست قدرت باپ کے صلب میں پیچا کر دیتا ہے اور یہ ماڈہ تولید کے مختزن سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے۔ ”تم دیکھتے ہو کہ ہم نے کس طرح سے تفرق ذرات کو جمع کر دیا اور انہیں سے کچھ درت حالت میں آگئے، اس کے بعد ان منتشر اور پرانہ ذرات کو پھر جمع کریں گے“

قرآن مجید میں اس مطلب کو بار بار یاد دلایا گیا ہے، ”کہدو کہ اسے وہی مہنتی نہ کرے گی جس نے اسے بھلی بار پیدا کیا ہے“ لہ

قدرت کا وہی ہاتھ جس نے ابتدی میں تفرق ذرات کو جمع کیا ہے انتشار کے بعد انھیں دوبارہ جمع فرمائے گا۔ تمہارے سامنے اس طرح سے معاد کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیا تم پھر بھی تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ”آیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے؟“ لہ

موت کے بعد زمین کی زندگی۔

اگر اب بھی کوئی تردید ایسا شبهہ باقی ہو تو ایسے یا نفس کے نیچے زمین کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ سرداری کے موسم میں ہمارے موت کی حالت میں البتھی

لہ۔ قل یحییہ اللہ انشا ها اول مرّۃ۔ سورہ ۳۳۔ آیت ۶۹

لہ اذ امتناؤ کتنا تراباً، اذ لم يعثرون۔ سورہ ۳۳۔ آیت ۷۰

لہ کتاب بندگی را افربینش جلد اول ۱۲۷۔

لہ ان فی جہنم وادی الیقال لہ سق، سے یا ایتھا النفس المطمئنہ لارجی الى الریب راضیة مرضیة فاد خلی عبادی و ارضی جنتی سورہ ۸۹ آیت ۷۰

لہ کتاب حقایق از قرآن ص ۲۰۷۔

ادرنباتات خشک نکٹھی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن موسم بہار کے شروع ہوتے ہی اس کو ایک فنی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اس سے آثار حیات کی بارش ہونے لگتی ہے اور طرح طرح کے پیٹھ پورے رنگ بینگ نیوں کے ساتھ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہے موت کے بعد زندگی اے

## خندانِ جنمیوں کو پیدا ہی کیوں فرمایا؟

دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا جانتا تھا کہ یہ مخلوق سعادت و شکختی کا راستہ اختیار نہیں کرے گی تو اسے پیدا ہی کیوں فرمایا؟ اے انسان! جمیع طور پر تیری یہ چون دچڑا تیری حد سے آگے ہے۔ مجھے کہتا یہ چاہئے کہ میں نہیں جانتا اور خلقت کے بنیادی راز کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نہ یہ کہ اعتراض کرے اور حکمت الہی کا منکر ہو جائے۔ البتہ اس شبیہ کے حوال میں صرف ایک سادہ سی مثال کے ذریعے مطلب کو واضح کرتا ہوں اگر کوئی صاحب اقتدار اور کریم النفس بادشاہ اپنے ملک میں بستے والے افراد کی تعذیب کے مطابق اپنے خزانے میں طرح طرح کے لباس، مال و زر اور جواہرات دیگر جمع کر کے اس کے بعد اپنے خزانے، اپنے محل اور اپنے مہمان خانے کے درداناں سے کھولدے اور عام طور سے اجازت دیدے کہ جو شخص آنا چاہے آ سکتا ہے درحالیکہ یہ جانتا ہو کہ ادھر ادھر کچھ ایسے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان محتاجوں کو محتاج خانے ہی میں مشغول رکھیں۔ لہذا اس طرح ضرور تمدنوں کی ایک جماعت محروم رہ جائے گی۔ شلاکسی نے آزادی کو بہل نہ جاؤ، ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ چند لوگ تو ان بذرختوں کی بات

## اصل غرض رحمت اور فضل کو وسعت دینا ہے

اے انسان! خدا جلد افراہ بشر کو پذیرانی کیلئے دعوت دیتا ہے حالانکہ ہمہ ہی سے جانتا ہے کہ سب نہیں آئیں گے بٹھے۔  
ہمہ گھرِ حملہ کائنات کا فرگر دند۔ بردا من کبریاں ننشیت ر گرد  
(یعنی اگر ساری کائنات کا فر ہو جائے تب بھی اسکے دامن پر یا بھر گر دیں گے پڑے گی)  
اس مقام پر ایک طیف نکتہ اور جند حقائق ہیں اگر یہ سارے افراد بشر نہ آئیں بلکہ صرف ایک شخص آجائے تو خدا کی تدریت و رحمت اور کرامت و عظمت کے طور پر کیجئے کافی ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ رب العزت کی شان آمادہ کرنا اور دعوت ہام رہنا ہے البتہ مخلوقات کو چاہیئے کہ اپنے اختیار سے آئیں اور غنی ہو کے پلیں۔ اور یہ زور نہ بروتی سے اور ایسے اختیار سے بھی نہیں ہوں جیسیں شیطان کا تسلط کام کر رہا ہوا اور ہوئی وہوس کا بحوم ہو۔  
بعض لوگ اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہیں بچوڑ دو، دنیا گزرتی جا رہی ہے نہ کوئا ہاتھ سے نہ دو، کون مردہ زندہ ہوا ہے؟ یعنی فقراءِ محنت خانے کو زبچوڑ دیں،

ملہ کتاب بندگی راز آفرینش جلد اول ص ۱۴۴

۳۰۷ اَتَاهُدْيَنَاهُ التَّبِيِّلَ اَمَاشَكَوَا وَ اَمَاكَفُورَا سُورَةٌ ۲۷۷۔ آیت ۳۰۷۔  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دِرْالِإِسْلَامِ سُورَةٌ ۲۷۸۔ آیت ۳۰۸۔

لہ کتاب بندگی راز آفرینش جلد اول ص ۱۴۵۔

## موت قدرت خداوندی کا نمونہ

اس کلکے کے مثل یا اس سے بالاتر حضرت علی علیہ السلام کا رشارد ہے کہ جنازوں کے مانند کوئی موعظہ نہیں ہے لہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قدرت هر فذات خداوندی کیلئے ہے تو جانکن کے وقت پر غور کرو۔ میونک تم خود بھی اس منزل سے گزرنے والے ہو ایک پہلوان ہر طرح کی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود ایک ممکنی کو بھی نہیں ہوا سکت۔ بولنے کی پوری ملاحیت رکھنا تھا لیکن اسوقت کلہ لآلہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے اور نہیں کہہ سکتا۔ یاد میت کرنا چاہتا ہے اور نہیں کہ سکتا ہے تو خشید دشواری کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی قدرت بھی اس کے پاس نہیں۔ بلکہ روزاول ہی سے نہیں تھی۔ وہ آرزو کرتا ہے کہ اپنے طفہ پنج جائے لیکن نہیں پہنچ سکتا اور کسی صورت میں یا کسی سواری پر یا کسی گھلی کوچھے میں موت سے دوچار ہوتا ہے وہ جتنی بھی تمنائیں رکھتا ہے ان پر کوئی دوسرا رابدہ کافرا ہے۔ تم کیا ہو؟ اور پہلے سے بھی کچھ نہیں تھے۔ آج تمہارا شتباہ اور عطا ہمیں محل کے سامنے آ رہی ہے تم کس یہ عترت حاصل نہیں کرتے؟ کتنی زیادہ مشینیں اور الجن کے ذریعے چلنے والی سواریاں یہی ہیں جو اپنے مالک کے لیے وہاں جان اور قاتل بن گئیں؟ لتنی ہی عمارتیں ایسی ہیں جنہیں تعمیر کرنے والوں نے پوری جان کا رسی اور محنت کے ساتھ تعمیر کیا لیکن ان کے اندر سے انکے جنائزے نکالے گئے؟ اب تم اس دنیا کے مزید اشتیاق اور والستگی میں کم کرو اور عالم باقی کے مشتاق ہنو، خدا کس طرح سے متنبہ اور متوجہ کرتا ہے لیکن یہ بشرط عترت

لہ وکھی واعطا باموت عایتموہا۔ شرح البلاغہ  
لہ یامن فی القبور عبرتہ یا ممن فی الملأات قدرتہ (جوش بحیر)  
لہ لا یستطيعون توصیۃ ولائی اهلهم ید جعون۔

عالم مادہ و طبیعت اور دنیا کی مسروں اور خوشیوں کو ترک نہ کرو، تمہیں آخرت اور بہشت سے کیا سرو و کام؟ تھیں تو یہ چاہئے کہ حیوانات کے جوار میں رہو۔ تھیں جوار محمد و آل محمد علیہم الصلٹہ والسلام سے کیا کام؟ یہ ہے شیطان اور اسکی صدرا۔ اب چونکہ یہ شیطان باتیں ہیں اور بیشتر لوگ اس کی باتیں سنتے بھی ہیں۔ تو کیا خدا اپنی بارگاہ فضل و کرم کو سب کے لیے بند کر دے؟

تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا جانتا تھا کہ یہ اور وہ نہیں آئیں گے تو انھیں کیوں پیدا کیا؟ یہ بچکا نہ باتیں ہیں۔ ہم عالم خلقت کے اسرار میں خیال آ رائی نہیں کہ سکتے جس سے یہ سمجھ سکیں کہ ملک الملوك نے اس خلقت میں کون کون سی حکمتیں اور اسرار اور موز پوشیدہ رکھے ہیں اور اس میں کون سی مصلحتیں کا فرمائیں جنھیں وہ خود جانتا ہے یا اس کی درگاہ کی مقرب ہستیاں۔

## عمر سعد اور ملک رے کی شیطانی آواز

عمر سعد کا معاملہ کیا تھا؟ ملک رے کیلئے ایک نفاذی آواز اور شیطانی دعوت، کہ اگر تو کر بلا جائے اور حیدن سے جنگ کرے تو حکومت رے تیرے بتفہ میں آجائے کی۔ اس نے بہشت کیلئے حضرت رسول نما صلی اللہ علیہ واللہ علیم کی اتنی کثیر دعوتوں میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کیا۔ صرف شیطانی دعوت پر لبیک کی اور وہ بھی کسترچ کراس اپنے خیال میں درست قرار دیتا ہے اور مرضی الہی پر اس طرح قلم پھیرتا ہے کہ حیدن کو قتل کر کے اپنا مطلب حاصل کریکا اس کے بعد اگر آخرت بھی کوئی چیز ہے تو تو بہ کریمکار رحمانی اور شیطانی نہ ایں قیامت تک کیلئے تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ یہ دونوں نہایت شخص کیلئے ہیں، بلکہ ہر فرد کیلئے روزمرہ یہ دوسم کی نہایت باقی ہیں لہ۔ کتاب بندگی راز افرینش ص ۱۲۹۔

حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ملے  
بنی ہاشم کے نام امام حسین علیہ السلام کا خط

گویا کہ دنیا دراصل تھی ہیں (داتواً جس شخص نے جالیش پچاٹ سال  
کی عمر پائی ہوہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی آیا ہو) یکن آخرت یکیئے قطعاً فنا نہیں ہے  
ہمیشہ سے تھی اور اب بھی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جن کا دل دوسرے  
عالم کی طرف متوجہ ہے۔ آپ نے کہ بلا پہنچنے کے موقع پر بھی انھیں مضامیں  
کا خط لکھا ہے ت۔

خداوند! داسط امام حسین علیہ السلام کا تو ہمیں اپنی بقا کا شوق اور راجوت  
کی محبت غنایت فرم۔ امام حسین علیہ السلام موت کے اتنے زیادہ مشتاق ہیں کہ  
چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے نانا بیغہ خدا، اپنے پدر بزرگوار علی رضی، اپنی ماں  
فاطمہ زہرا۔ اور اپنے بھائی حسن مجتبی سے جا ملیں۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف  
کی ملاقات کے کس قدر مشتاق تھے اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھوڑتے  
ہوئے اقرباء کو دیکھنے کیلئے بیچین ہاں۔ اور بعد کو آپ نے اس سے آکاہ بھی فرمادیا  
کہ میں کہ بلا کی ہوں جو شخص کرب دلا کی ہوں رکھتا تو قسم اللہ۔ صلی اللہ  
علیک یا بالعبد اللہ۔ سے وسلے

ل۔ ما اکثر العبر واقع بالاعتبار۔ لہ کتاب کامل الزیارات میں روایت ہے کہ حضرت ایشیہ  
نے کہ بلا سے ایک خط اپنے بھائی محمد حنفی اور بیگم بنی بنی ہاشم کو اس طرح کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم  
من الحسین بن علی الى محمد ابن علی ومن قبله من بنی ہاشم امالعول کان الدینالہ تکن  
وكان الآخرة لم تغفل بالسلام۔ سے۔ جس وقت امام نے مخفی سے روکنی کا قصد نہیں  
تو بخط ارشاد فرمایا۔ الحمد لله ولا قوة الا بالله وصلی اللہ علی رسولہ خط المورث علی ولد ادم  
فخط القلام وہ علی جید الفتاح و ما وله حقی ای اسلام فی اشتیات یعقوب ای يوسف ای آخرہ  
ذلیلہ ہم۔ یہ کتاب بندگی راز افریدش ص ۲۵۹ تا ۲۶۰۔

## بزرخ میں عزادار حسین کی فریاد رسی

تیر اموقوف بزرخ ہے۔ یعنی قبر سے قیامت تک۔ روح کے بدن مثالی سے  
متعلق ہونے کے بعد اگر مرنے والائیں کو کارروں میں سے ہے تو اس کا ظہر جواہر  
امیر المؤمنین علیہ السلام میں وادی السلام ہے اور اگر اشقيا اور بدل کاروں میں سے  
ہے تو اس کا محل ظہور وادی البرہوت میں ہے اگر وہ مکن طور سے پاک و پاکترہ  
دنیا سے اٹھا ہے تو بزرخ راحت کے اندر مرت و شادمانی اور لذت کے عالم  
میں ہے۔ اور اگر گرگناہ یا حق الناس اور مظالم سے الوہہ ہے تو دیوار میں ٹھوکنی ہوئی  
میخ کے مانند فشار میں ہے۔ آیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے  
حصی طور پر پاکیا زاٹھیگا اور بندوں کا کسی طرح کا حق اس لگتے نہ رہ جائے گا؟  
آیا اس نے اپنی ساری نسلی میں کسی کی آبروری نہیں کی ہے؟ کسی کی خیانت نہیں  
کی ہے؟ ان تمام صورتوں میں راہ چارہ تدبیر کیا ہے؟ اسی حدیث مبارک میوے  
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْمَرْجَعَ قَدِيمًا قَيْدَمًا فِي مَرْجَعِهِ .....  
— یعنی جس شخص کا دل ساری حیثیت میں بے چین ہو تو موت کے وقت اسے ایسی  
فرحت نصیب ہوگی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یعنی اسے عالم بزرخ میں  
کوئی رنج و عنم نہ ہوگا۔ لہ

## محشر میں حسین کے زیر سایہ

امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا ایک اثر قیامت میں بھی ظاہر ہوگا  
درجنہ ظاہر ہے کہ روز قیامت یک سادہ ہے۔ تم اس دن کے بارے میں آیات  
قرآنی کے ذریعے کم و بیش واقفیت رکھتے ہی ہو گے۔ خدا ایسے دن کی فتنے اکبر

(یعنی سبے بڑا خوف دہر اس) سے تعبیر فرماتا ہے اس روز و حشتِ داضطرا بِسُبْحَنِ کو اپنی گرفت میں لے لیکا۔ اور کوئی شخص ایسا نہ ہو گا جو مفترب نہ ہو۔ روز قیامتِ امن و امان کیلئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مبارک منقول ہے کہ «من قرب السعی فی حوا بجہ فی یوم العاشور ..... اخْ بَعْنَیْ جُوْهُنْ روز عاشور اپنے امور متعلق رکھے یعنی کسب معاش اور اپنے دیگر کاموں کے یونچہ نہ جائے (جیسا کہ بنی اسری اپنی کو رحیمی سے اس دن کو متبرک جانتے تھے) اور اپنی روزانہ معیشت کیلئے بھی کوئی کام انجام نہ دے تو خدا نے تعالیٰ اس کی دینا و آخرت کی حاجتیں برا کے گا۔ اور جس شخص کیلئے روز عاشور لا حرج و اندوہ کا دن ہو تو اسکے لیے ہمارا شاید بھی یہ جملہ ہے کہ "جعل اللہ یوم القيامة یوام سرو رہ" یعنی اس کے عوض ذرا سے قیامت جو سب کے لیے ہوں اور خوف کا دن ہوگا۔ اس کیلئے خوشی اور سرور کا دن ہوگا۔

ایک اور سخت موقف حساب کا موقف ہے۔ اس وقت کا تصور کرو جب خدا فرمائے گا کہ تم خودا پینا نامہ اعمال پڑھو سے اس وقت ہر شخص اپنے ہر چیزوں سے چھوٹے عمل کو بھی دیکھے گا اگر عمل نیک ہے تو اس کی جزا بھی نیک اور اگر بد ہے تو سکا بد رہ بھی برادیا جائے گا۔ یہ رہی یہ بات کہ موقف حساب پر کتنی دیر تک ٹھہرنا ہوگا؟ تو اس میں اشخاص کے حالات کی میانی بستی سے فرق ہو گا جس شخص کا حساب طول یعنی کا تو یہ جیسے خود ہی اس کیلئے ایک مصیبت اور سخت روحانی عذاب ہی کی

یکونکہ وہ بیچارہ اس جاں گئی ذہنی کرب میں مبتلا ہو گا کہ نجانے اس کا انجام کیسا ہوتے والا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ آیا وہ بہشتی ہے یا جہنمی؟ نیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ روایات کی نص کے مطابق اُس مدت تک جب لوگ حساب میں مبتلا ہوں گے یہ عرش کے سایے میں رہیں گے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادرار ہیں یا اس وقت حضرت سید الشہداءؑ کے جوار میں ہوں گے جب دوسرے لوگ حساب دینے کی اذیت جھیل رہے ہوں گے۔ یہ اپنے آتا کی خدمت میں یعنی حقیقی جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔

### تکمیلِ خلقت کے بعد روح پھونکنا

(اسی بنابر خدا کیلئے ایک دوسری خلقت ضروری ہے۔ عالمِ مثالی، اور بزرخ یاتیamat کے عوام۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں نشانہ ثانیہ یادو سری خلقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ نشانہ اختری عبارت ہے۔ رحم کے اندر حسین کی تکمیل کے بعد اس کے بدن میں روح انسانی پھونکنے سے۔ خدا نے تعالیٰ نے انسان کو پہلے خاک سے اس کے بعد نطفے سے اس کے بعد علقة سے اس کے بعد مضنے سے درست کیا۔ اس کے بعد ٹہری پیدا کی اور اس کے بعد ٹہری پر گوشت چڑھایا اور جب یہ جسمانی ساخت چار ماہ کی مدت میں پوری ہوئی تو اس وقت دوسری تخلیق کی جوانسان کی روح تھی۔)

---

لَهُ کتاب سید الشہداء ص ۸۳ ۲۰۷ مُخْلِقُنَا النَّطْفَةُ عَلْقَةُ نُخْلِقُنَا  
العلقة منفعةٌ فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عَظَاماً فَكَسَوْنَا الْعُظَامَ  
لَهُ مَا لَمْ أَنْشأْ فَاهٌ خَلَقَاهُ أَخْرَفَتِ بَارَثَ اللَّهُ أَحْسَنَ  
الْخَالِقِينَ۔ سورہ ۸۳، آیت ۱۵۔

لَهُ أَنْ زَلَّتِ الْسَّاعَةُ شَعْيُ عَظِيمٍ يَوْمَ تَرْوِيهَاتِنَّ هُلْ كُلُّ مَرْضَعَةٍ عَمَّا  
أَرْضَعَتْ وَتَضَعَّفَتْ كُلُّ ذَاتٍ حَلَ حَمْلَهَا لَهُ أَقْرَأَ كَتَابِكَ بِذَنْفَسَكَ  
الْيَوْمِ حَسِيبًا۔ ۲۰۷ مُنْ يَعْلَمُ مُتَقَالَ ذَرَّةٌ خَيْرٌ إِرَاهَ وَمَنْ  
يَعْلَمُ مُتَقَالَ ذَرَّةٌ شَرٌّ إِرَاهَ۔

اس مقام پر کہتے ہیں کہ یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ ہم رحم کا لذت  
نطفے کے انقاد کو بدن کی تکمیل تک نشانہ اولیٰ اور روح انسانی کی خلقت  
کو نشانہ اُخْرَی سمجھیں، اس لیے کہ اس سے قبل کی آئیں روح کی جہت  
کے بغیر صرف خلقت جسم کے بارے میں ہے۔

### زنا کار کا بزرگی عذاب

امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یوں شخص کسی مسلمان یا یہودی  
یا نصرانی یا مجوہی، آزار یا کینہ تو نہ کروات سے حرام گاری کرے اور اسکے بعد تو یہ شکر بکر  
اس کنہا پر اصلہ کے ساتھ دنیا سے اٹھ لے خدا تعالیٰ اس کی تبریز میں عذاب کے  
ایسے تن پتھروں اے کھولتا ہے کہ ہر دفعاً اسے آگ کے ساتھ پچھو اور  
اڑدہے برآمد ہوتے ہیں اس کے بعد فراتے ہیں کہ وہ روز قیامت تک جلتا رہے گا۔

### صحرا کے محشر میں زنا کار کی بدبو

اور جب وہ اپنی قبر سے باہر آئے کا تو اس کی بدبو سے لوگوں کو  
اقیت ہوگی، چنانچہ وہ اسی شدید بدبو سے بہجان یا جائے کا اور لوگ  
جان لیں گے کہ یہ زنا کار ہے یہاں تک کہ حکم دیا جائے کا کار اسے لازمی  
طور سے آگ میں ڈال دیا جائے۔ خداوند عالم نے مجرمات کو قطعاً حرام فرمایا  
ہے اور ان کے لیے حدود میں فرمائے ہیں پس کوئی شخص خدا سے زیادہ  
غیرت مند نہ ہیں ہے اور یہ غیرت الہی ہی کا نتیجہ ہے کہ شخص کاموں کو

۱۔ کتاب تفسیر سورہ بحیرہ (معراج) ص ۲۶۳  
۲۔ کتاب کنہا بہان کبیرہ جلد اول ص ۲۰۲

حرام فرمایا ہے۔ ۳۰۲

### میں تمہارے لیے بزرخ سے ڈرتا ہوں

عمر بن شرید سے مردی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے  
عرض کیا کہ میں نے آپ کا یہ قول سنایا ہے کہ ہمارے تمام شیعہ بہشت میں ہوں گے  
خواہ ان کے کنہا کیسے ہی ہوں جس سے فرمایا، میں نے صحیح کہا ہے، خدا کی قسم  
وہ سب کے سب بہشتی ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ برقہا ہو جاؤں حقیقتاً کنہا تو بہت  
یاں اور بڑے بڑے ہیں۔ فرمایا لیکن قیامت میں، اس روز یعنی خداصلی اللہ  
علیہ وال وسلم یا آپکے دمی کی شفاعت سے تم سب کے سب بہشت میں ہو گے  
لیکن خدا کی قسم میں تمہارے لیے بزرخ میں ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، بزرخ کیا  
چیز ہے؟ تو فرمایا بزرخ قبر ہے موت کے وقت سے روز قیامت تک۔

كَمْ مِنْ زَلْقَدٍ مُّسْلِمٌ أَوْ كُفُورٍ يَهُودٍ أَوْ نَصَارَاءٍ أَوْ جِهُوشِيَّةٍ حَرَمَهُمْ لِمَ يَتَبَّعُ  
وَهُوَاتِ مَفْرُأَتِهِ فَعَذَّبَ اللَّهُ لِهِنِّي قَبْرٌ ثَلَاثَ مَلَأَ بِأَجْنِحَةِ مَنْهَا مِنْ عَقَابٍ وَثَعَبٍ مِنْ  
الْفَارِضِ هُوَ يَحْتَرُقُ إِلَى لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَيْتُ مِنْ قَبْرٍ تَأْتِي النَّاسُ مِنْ نَنْتِنِ رِيحِهِ فَيَرْفَعُ  
بَنَدَالِكَ وَسَاكَنٍ يَعْلَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا حَتَّى يُؤْمِنَهُ إِلَى النَّارِ الْأَوَّلِ اللَّهُ حَرَمَ الْحَلَمَ وَ  
حَدَّ الْحَدَ وَهُوَ الْحَدُلُ عِنْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ غَيْرُهُ حَرَمَ الْفَوَاضِحَ (رسائل الشیعہ)۔  
لَهُ کتاب کنہا بہان کبیرہ جلد اول ص ۲۰۲۔ لَهُ قدت لالی عبد اللہ اُنی سمعت دش  
یقول کل شیعتنا فی الجنة علی ما كان فیهم قال صدقتك تکلمهم والله فی الجنة تقدت  
جعلت ذرا کاف ان اللہ توب کثیرہ کبادر قال امانی القيامة فكلکم فی الجنة بشفاعة  
النبي المطاع ووصي النبي ولكن والله التحرف علیکم فی البزرخ تقدت وما بالزرخ  
قال القبر من حين موته ایین القيامة (كتاب کافی)

## کل آنسوؤں کے بد لئے خون روہیں گے

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کے لیے اپنی وصیتوں میں فرمایا کہ گناہ کو چھوڑنا ز سمجھوا درگناہ بان بکیرہ سے برہنگر کرو کیونکہ قیامت کے روز جب بندہ اپنے گناہ کو دیکھے گا تو اُس کی انکھوں پیپ اور خون جاری ہو گا۔ خدا فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے جس میں شر حضراپنے نیک اور بد عمل کنگا ہوں کے درمیان ملباقاصلہ ہوتا ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک بندہ اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کیلئے سوال تک قید میں رکھا جائے گا

## پہلے اپنے برزخ کو طے کرے

کام اس منزل تک پہنچنا چاہیے کہ خود بینی سے کوئی واسطہ نہ رہ جائے۔ خدا کی یاد اس کے وجود کے اندر ایسا عمل کرے کہ خود اس کی اپنی شخصیت درمیان سے ہٹ جائے اور وہ اپنی خودی سے نجات پا جائے۔ اس طرح جس وقت اسکی یہوت آئے گی تو وہ اپنے برزخ سے ہٹے ہی گذر چکا ہو گا اور ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں

۱۔ لا تخفقن ذنبأ ولا تصرعنه واجتبب الْكَبَارُ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَانَطَ إِلَيْهِ ذُنُوبَهُ وَمَعْتَ عَيْنَاهُ دَمَّا تَحْمَاً۔ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَمْ تَجْدَدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ حُسْنٍ حُكْمُهُ أَوْ مَا حَمَلَتْ مِنْ سُوءٍ قُوَّدُ لَوْانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْدَلْ بَعِيدًا (نَحَارُ الْأَفَارِجَ جَلَد١، ۱۷)

۲۔ أَنَّ الْعَبْدَ يَعْجِسُ عَلَى ذُنُوبِهِ مَائَةَ عَامٍ۔ (كتاب کافی)

۳۔ كتاب گنہاں بکیرہ جلد اول ص ۱۳

ادیا کئے خدا کی منزل ہو گی اور حسن کے سردار حضرت ابو عبد اللہ الحسینؑ کے اصحاب ہوں گے۔ شہدائے کربلا عرش کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے حضوری میں اسقدر مسروہ ہیں کہ خود حوریں انھیں پیغام بھجوئی یہ ہے کہ ہم نحאר سے مشتاق ہیں لیکن یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام کا جوار یونکر چھوڑ سکتے ہیں؟۔

## جو حسینؑ میں عطا رہا ہے

امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اسقدر فرحت بخش ہے کہ دھوروں کی پکڑا نہیں کرتے۔ محبت کا عالم بھی عجیب ہے۔ یہ دہی عطا یا رہا ہے اور عظیم عنایتیں ہیں جنہوں نے کسی کے دل میں بھی خطرہ نہیں کر سکتے۔ صرف یہ کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور کسی کا ان نے نہیں سنایا ہے۔ بلکہ اس دل سے بھی نہیں گزری ہیں تھے۔ بالآخر مقام ذکر بہاں تک پہنچتا ہے کہ خود اپنی شخصیت فرماؤش ہو جاتی ہے۔ ذکر مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقتی کا پہنچنے کے کوئی خودی نظر نہیں آتی۔

## حرز قملؑ نے کس چیز سے عبرت حاصل کی؟

مردی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولی سرزد ہوا تو وہ پہاڑوں اور بیابانوں میں روتے اور نالہ و فریاد کرتے ہوتے چلتے رہتے تھے۔

۱۔ این موافق ہنئیہ این منایعک المسنیۃ (علی الوجہ شما) ۲۔ اعدت لعبادی الصالحین مالا و عین زارت ولا اخذ سمعت ولا خطر على قدیب بشر۔

یہاں تک کہ ایک ایسے بہماڑ برد ہو چکے جس کے اندر ایک غار تھا اور اس میں ایک عبادت گزار پیغمبر حضرت حمزیل مقیم تھے۔ انھوں نے جب پیہاڑوں اور حیوانات کی آوازیں سُنیں تو کچھ لیا کہ حضرت داؤد آئے ہیں (کیونکہ حضرت داؤد جس وقت زبور پڑھتے تھے تو سبھی ان کے ساتھ تالوں میں شریک ہو جاتے تھے) حضرت داؤد نے ان سے کہا کہ لیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے آجائوں؟ انھوں نے کہا کہ آپ کہنے کارہیں۔ حضرت داؤد نے روزناشر وع کیا تو حضرت حمزیل کو دھمپی پہنچی کہ داؤد کو ان کے ترک اولیٰ پر کسر زنش نہ کرو، اور کچھ سے عافیت طلب کرو، کیونکہ میں جو شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں وہ ضرور کسی خطاب میں مبتلا ہو جاتا ہے جنما کچھ حضرت حمزیل حضرت داؤد کا ہاتھ پکڑ کے انھیں اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت داؤد نے کہا، اے حمزیل! تم نے کبھی کسی گناہ کا قصد کیا ہے؟ انھوں نے کہا نہیں۔ انھوں نے بھر پوچھا، کبھی تمہارے اندر عجب اور خود میں کی پیدا ہوئی؟ انھوں نے کہا، نہیں۔ پھر دریافت کیا کہ آیا دینا اور اس کی خواہش کی طرف کبھی آپ کا دل مائل ہوا؟ انھوں نے کہا، نہ۔ حضرت داؤد نے پوچھا کہ، آپ اس کا علاج کسی چیز سے کرتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا میں اس شکاف میں داخل ہو جاتا ہوں اور جو کچھ وہاں ہے اس سے عمر حاصل کرتا ہوں۔ حضرت داؤد ان کے ہمراہ اس شکاف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آہنی تخت پہنچا ہوا ہے جس پر کچھ بو سیدہ۔

لہ عین الحیواۃ مجلسی علیہ الرحمہ ص ۱۲۲  
لہ کتاب اسنوا ذہ ص ۸۳۔

خاک میرا بستر ہے، پتھر میرا رانکیہ ہیں، اور سانپ اور چونٹیاں میرے ہمسایے ہیں پس جو شخص مجھے دیکھے وہ دنیا کا فریب نہ کھائے لے جنسکی آخری خواب گاہ چند منٹھی خاک ہے...<sup>۱</sup>

یہ تھی ایک بادشاہ کی سرگزشت اور اس کا انعام بہر حال مومن کو جاہیز کا پانی کو تلقین کرے کہ بالفرض میں نے شیطان اور نفس کی بات سنی۔ ہواد ہوں کے حال میں پھنسا اور دنیا اور اس کی مسٹروں کے تیکھے دوڑا یہ سرگزی کیں تک؟ اگر کوئی شخص اپنی ذات کیلئے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارے تو کیا اللہ ہوتا نہ آئے کی؟ میں چاہے جس قدر جان لڑاؤں اس بادشاہ کے ماند نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا انعام بھی نکالا ہوں کے سامنے ہے۔

۷ آنکہ راخوابی آخر بہ دو مشتہ خاک است

گوجھ حاجت کے برافلاک کشمی ایوال را

(یعنی جس کی آخری خواب کاہ دشمنی خاک ہے اس سے کہو کہ مجھے یہ ندک بوس محل منانے کی کیاضورت ہے؟)۔ یہ مری عرض یاد رہا اور نصیحت ہے۔ اگر ایمان اپنے کو بالکل آزاد چھوڑ دے اور متنبہ نہ کرے تو اس کا نفس بے لگام ہو جاتا ہے اسے چاہئے کہ کوہ (پیہاڑ) کے ماند رہنکاہ (گھناس) کے ماند نہیں، کہ ایک دسوئے کی وجہ سے شیطان کے پیچھے چلتے گے۔ اسے اپنے ظاہری زر قُبُرق سے چشم پوشی کر کے اپنے انعام کا رکو دیکھنا چاہیے۔<sup>۲</sup>

## نیارت قبور خود تمہارے یہے ہے

یہ بہر حال ضروری ہے کہ خود تمہارے وجود کے اندر ایک داغطا و نصیحت کرنے والا موجود رہتے۔ شرعاً مقدس میں زیارت قبور اور بالختم والدین کی قبروں کی نیارت کیلئے جو اس قدرتاً کند کی تھی ہے وہ کس لیے ہے؟ اس مقام سے جب تم فاتحہ پڑھتے ہو تو اپنی پہنچ جاتا ہے اور صدقہ جہاں سے بھی دو وہ اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن ارشاد ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر جاؤ کیونکہ وہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ اس کا سب سے طرا فائدہ خود تمہارے لیے ہے کہ تم اس بات پر متوجہ رہو کر تمہارے باپ نہیں رہتے۔ اسی طرح تم بھی نہ رہو گے اور جلدیاً بدیران سے جاملو گے۔ دور و زہ دنیا کافریب نہ کھاؤ اور وسوسوں کو اپنے دل میں جگرنے دو۔ خلاصہ کہ غفلت میں نہ رہو۔

## فاطمہ زہرا شہداے احمد کی قبروں پر

صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اللہ علیہما کے حالات میں وارد ہے کہ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دفات کے بعد ان مصیتوں کی وجہ سے جواپ کو پہنچنے بیمار ہو گئیں۔ اس کے باوجود ہر دشمنے اور بیٹھنے کو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے اجازت لے کے احمد میں اپنے چچا حمزہ اور دیگر شہداے احمد کی قبروں پر تشریف لے جاتی تھیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی مرض الموت کی حالت میں باوجود یہ کہ بخار میں مبتلا تھے اور چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے پھر بھی فرماتے تھا کہ میراثی میں باتحد دیکر مجھے قبرستان بقیعہ تک پہنچا دو۔ خداوند میں بھی اہل ذکر اور نصیحت یافت افراد میں قرار دے شے۔

## برزخ

یعنی موت کے وقت سے قیامت تک انسانی حیات۔ "وَمِنْ وِرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُثُونَ" سورہ ۲۳، آیت ۱۰۱۔ (اور ان کی موت کے بعد برزخ ہے اُس روز تک جس وہ الٹھائے جائیں گے) اس بات کو یقین کے ساتھ جان لینا چاہئے کہ کوئی انسان موت سے نیست و نابود نہیں ہوتا ہے۔ موت انسان کی روح اور جسم کے درمیان جداگانہ کا نام ہے اور اس سے روح کا جسم سے مکمل قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اس حدائقی کے بعد جسد مردہ مٹی کے اندر فاسد اور منتشر ہو جاتا ہے اور بالآخر بالکل خاک ہو جاتا ہے۔ روح اس کی جداگانی کے در LAN ایک لطیف جسم کے ساتھ رہتی ہے۔ جو خشکل و صورت میں اسی مادی جسم کی مانند ہوتا ہے لیکن شدت لطافت کی وجہ سے حیوانی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس امر پر یقین رکھنا چاہئے کہ موت کے بعد عقاید اور اعمال کے بارے میں پرسشیں اور سوالات ہوں گے لہذا ان کے جوابات کے لیے آمادہ اور مستعد رہنا چاہئے۔ لیکن ان کی کیفیت اور تفصیل جاننا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی یقین رکھنا چاہئے کہ برزخ میں فی الجمل ثواب و عقاب بھی ہے، یعنی اپنے عقاید اور کردار کے اثرات سے بہرہ مندی حاصل رہنا چاہئے۔ یہاں تک کہ قیامت کبری میں مکمل ثواب الہی اور بہشت جاودائی تک رسائی ہو، یا پناہ۔ بخدا ہمیشہ کے غذاب میں گرفتاری ہو۔ یہت سے مونین ایسے یہیں جن کا کردار اچھا نہیں رہا۔ ان کا حساب اسی برزخی غذاب سے اس طرح بلا براہر ہو جاتا ہے کہ قیامت میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں۔ (حالات برزخ کی تفصیل کتاب "معاد" میں بھی جاپکی اس طرف رجوع کریں)۔

خواہشوں سے ہٹ کھاتا ہے، اور اس روز کے ہوول سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ اس بات کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ اسمی طرح اس کے بعض خصوصیات اور کیفیات کا جانا بھی نہ ضروری ہے نہ فائدہ بھی بلکہ انکے بارے میں سوالات کرنا بھاجا ہے۔ کیوں کہ یہ خداۓ تعالیٰ کے خصوص علوم میں سے ہے۔ البتہ اس روز کے جن موافق کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کا جانا لازم بلکہ ان پر یقین کرنا واجب ہے، اور ان موافق سے عبارت ہے میران، صراط، حساب، شفاعت، بہشت اور دوزخ، جیسا کہ آئندہ ذکر ہو گا۔ ۱۷

## برزخ

لغت میں برزخ کے معنی ایسے پردے اور حائل کے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو اور ان دونوں کو ایک درست سے ملنے نہ دے بنالہ دریائے شور و شیر میں دونوں موجیں مار رہے ہیں لیکن خداۓ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسا مانع قرار دیا ہے کہ ان میں سے ایک درستے پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ۱۸ اور اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح کے مطابق برزخ ایک ایسا عالم ہے جسے خداوند عالم نے دنیا اور آخرت کے درمیان قائم فرمایا ہے تاکہ یہ دونوں اپنی اپنی خصوصیت اور کیفیت کے ساتھ باقی رہیں۔ یہ ذیبوی اور اخری امور کے مابین ایک عالم ہے۔ برزخ میں سر کا درد، دانتوں کا درد یا دوسرے امراض اور درد موجود

سلہ کتاب قلب سلیم ص ۲۳۴۔

۱۷۔ مرج العبرین یک تقدیم بینہما برزخ لا یبغیان۔ (سورہ رحمن)۔

یقین مذکور کیلئے لازم ہے کہ عقاید حق کی پختگی اور استحکام میں اس طرح سعی کریں کہ وہ دل میں مضبوطی سے جگہ پکڑ لیں تاکہ پریش اور سوالات کے وقت مبہوت اور ہیران نہ ہوں۔ نیز جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ واجبات اور مستحبات میں سے ہر عمل حیر سمجھا لانے کی کوشش کریں۔

خلاصہ یہ کہ موت کے بعد کی زندگی کیلئے نیک اعمال کی کاشتکاری سے ایک لمحے کیلئے بھی غافل نہ رہنے کیونکہ وقت بہت تنگ اور فصل کا ہے کا وقت بہت قریب ہے۔ ایک انسان اور اس کے اعمال کے نتائج کے درمیان سماحت کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہے اور وہ بھی ہر لمحہ انسان کو خوفزدہ کر رہی ہے۔

یقین قیامت پر یعنی اس دن پر جس میں تمام اولین و آخرین افراد بشر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب ایک جگہ جمع ہوں گے جس روز آفتاب اور ماہتاب میں کوئی روشنی نہ ہوگی۔ جس روز پے درپے زلزلوں کے نتیجے میں پھر اڑ رہنے والے اور ریگ بیان کے مانند نرم ہو جائیں گے جس روز زمین اور آسمان بدل دیئے جائیں گے۔ جس روز انسانوں کی ایک جماعت مکمل امن و امان، شادمانی، اور سفید دروش چہروں کے ساتھ آئے گی، اور ان لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دامنے ہاتھوں میں ہوں گے اور دوسرا گروہ انتہائی شدت و اضطراب، رنج و اندوہ اور سیاہ روئی کا حائل ہو گا، اور ان کے نامہ اعمال انکے بینہما تھوڑے تھوڑے ہوں گے۔

یہ وہی دن ہو گا جسے خداوند عالم نے بزرگ بتایا ہے، اور یہ اس ہونا کہ بزرگان دین بھی اسے یاد کر کے خوف زدہ، غمگین، گریاں اور نالاں، ہو جلتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر بیدار دل رکھنے والا انسان جب قرآن مجید میں اس کے حالات اور اوصاف کو پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کا سکون و قرار رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کا دل دنیا اور اس کی

نہیں ہیں، یہ سب اس عالم مادی کے ترکیبات کا لازمہ ہیں۔ البتہ اس جگہ مجردات ہیں۔ جن کا مادے سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ صریح طور سے اخترت بھی نہیں ہے۔ یعنی تمہاروں کے لیے ظلمت محض اور طاقت اگزاروں کے لیے فور مغض نہیں ہے۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا کہ بزرخ کمازمانہ کون ہے؟ تو فرمایا، موت کے وقت سے اس وقت تک جب تک قبروں سے اٹھیں گے لے اور قرآن مجید میں ارشاد ہے "اور ان کے پیچھے ایک بزرخ ہے روز قیامت تک" ۱۷۳

## عَالَمُ مَثَلِيٌّ - بَدْنُ مَثَلِيٌّ

بزرخ کو عالم مثالی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اسی عالم کے ماتنہ ہے۔ لیکن صرف صورت اور شکل کے محااظے سے۔ البتہ مادے اور خواص و خصوصیات کے محااظے سے فرق رکھتا ہے۔ موت کے بعد ہم ایک ایسے عالم میں وارد ہوتے ہیں کہ یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایسی ہی محدود ہے جیسے شکم مادر اس دنیا کی نسبت سے۔

بزرخ میں تمہارا بدن بھی بدن مثالی ہے۔ یعنی شکل کے اعتبار سے تو بالکل اسی مادی جسم کے مطابق ہے لیکن اس کے علاوہ جسم اور مادہ نہیں ہے بلکہ لطیف ہے اور ہوا سے بھی زیادہ لطیف۔ اس کے لیے کوئی چیز رانع نہیں ہے جس مقام پر بھی قیام کرے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے لیے دیوار کے اس طرف اور اس طرف کا کوئی سوال نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

۱۔ من حین موتہ الی یوم یبعثون (بخار الانوار)

۲۔ ومن در ائم بزرخ الی یوم یبعثون. سہ کتاب معاد ص۳۔

اگر تم اس بدن مثالی کو دیکھو تو کہو گے کہ یہ تو بالکل دہی دنیاوی جسم ہے اس وقت اگر تم اپنے باپ کو خواب میں دیکھو تو اسی دنیاوی بدن میں شاہدہ کرو گے۔ لیکن ان کا جسم اور مادہ تو قبر کے اندر ہے، یہ صورت اور بدن مثالی ہے۔ بزرخی جسم۔

وہ آنکھیں رکھتا ہے جو انھیں مادی آنکھوں کی ہم شکل ہیں لیکن انہیں چربی وغیرہ نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا، قیام قیامت تک دیکھتی رہیں گی۔ وہ بخوبی دیکھ سکتی ہیں۔ زمان آنکھوں کی طرح کبھی کمزور ہوتی ہیں نہ عینک وغیرہ کی احتیاج رکھتی ہیں۔ حکماء اور متنکلین اس کو اس تصویر سے تشبیہ دیتے ہیں جو آئینے میں نظر آتی ہے لیکن اسی صورت میں کہ اسکے اندر دوسرے طین پائی جاتی ہوں، ایک قیام بالذات، یعنی اس طرح کہ خود اپنے وجود سے قائم ہو۔ نہ کہ آئینے اور دیگر ادراک و شعور کے ذریعے بدن مثالی اپنی ذات پر قائم اور فہم و شعور کا حامل ہوتا ہے۔ اسکی مثالی وہی خواب یاں جو تم دیکھتے ہو، کہ ایک حشمت زدن میں طویل مسافتیں طے کر لیتے ہو، کبھی مکہ بنیجع جانتے ہو اور کبھی مشہد مقدس۔ اس عالم میں ایسی طرح طرح کی کھانے پینے اور نوش کرنے کی چیزیں زیبا اور دل ربا صورتیں، اور نفعے موجود ہیں جن میں سے کسی ایک پر بھی دنیاوائے دسترس نہیں رکھتے لیکن مثالی جسموں کے اندر رہنے والی مدد جیسی انہماں بیجنزوں سے یہ رہ اندر ورز ہوتی اور رزق حاصل کرتی ہیں۔ البتہ اعلیٰ میں

لہ۔ لورأیتہ لقلیت ہو ہو (بخار الانوار)

۱۔ وَلَا تَحْسِبُنَّ اللَّهَ مِنْ قَوْمٍ مَّا يَعْلَمُ اللَّهُ أَمْوَالَ أَهْلِ الْحَيَاةِ إِنَّمَا  
رِبَّهُمْ يَرْزَقُهُمْ قَوْن۔ (سورة آل عمران آیت ۱۴۹)

خورد نوش کی اشیاء اور دیگر نعمتیں سمجھی بطیف ہیں، اور ان کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بنابر جیسا کہ رواۃ رسول میں دارد ہوا ہے ممکن ہے کہ ایک ہبی چیز نومن کے ارادے کے مطابق مختلف صورتوں میں مبدل ہو جائے مثلاً۔ زرد الوم موجود ہو۔ لیکن وہ شفناکو چاہتا ہے تو شفتالوبن جاتے۔ یہ سب تھامے ارادے برخصر ہو گا جیسا کہ ایک روایت میں حضرت رسول نے اصلی اللہ علیہ والسلام سے منقول ہے کہ آنحضرت نے فرمایا، میں نے اپنے چچا سید الشہداء حمزہؑ کو (العزم) دیکھا کہ ان کے سامنے حنت کے انار کا ایک طبق رکھا ہوا ہے اور وہ ان میں سے نوش فرمائے ہیں۔ ناگہاں وہ انار انگور ہو گئے اور انہوں نے نوش فرمائے، پھر میں دیکھا کہ دفتار وہ انگور رطب کی صورت میں آگئے۔ لہ میر مقصد ایک چیز کا مختلف چیزوں کی صورتوں میں بدل جانا ہے کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے اور لطیف ہے۔ ۲۷

### تاشر اور تاشر کی شدت

اس دنیا پر عالم برزخ کی برتری اور امتیازی خصوصیات میں سے تاثیر کی قوت ہے، حکمت اللہیہ کے بارے میں ایک علمی بیان ہو چکا ہے۔ جو عام انساؤں کے سامنے پیش کرنے کی چیز نہیں ہے لہذا ہم اس موضوع پر بحیثی صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

لہ - نقیر روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت نے فرمایا، میں نے پانچ چاۓ پوچھا کہ یہاں کوئی چیز زیادہ موثر از نسبت بخوبی ہوتی ہے؟ تو انھوں نے کہا۔ یہاں تین چیزوں زیادہ کام آتی ہیں۔ اول پیاس سے کوپالی بلانا درود آپ پر اور آپ کی آں پر صلوٰۃ بھیجنا اور سووم علی کی محبت۔ ۲۷ کتاب معاد ص ۱۳۔

(درک یعنی اور اک کرنے والا۔ اور ادراک ہونے والا جس قدر زیادہ لطیف ہو گا اور اک بھی زیادہ قوی ہو گا)۔  
یہ میوے، شیبرینیاں، اور لذتیں جو تم چکھنے اور کھانے سے حاصل کرتے ہیں عالم برزخ کے میوں، شیبرینیوں اور لذتیوں میں سے صرف ایک نقطہ ہیں ان کی اصل دینیاد اسی مقام پر ہے۔ اگر ہر عین کی صورت کا ایک گوشہ بھی کھل جائے تو اُن تھیں خیر ہو جائیں۔ حور کا نور اگر اس عالم میں آجائے تو اقتدار کے قدر پر غالباً آجائے۔ حقیقی یہ ہے کہ جمال مطلق اسی جگہ ہے۔ پورا دنگا عالم قرآن مجید میں ذمہ اٹائے ہے جو کچھ زمین پر ہے اُسے، ہم نے اُس کیلئے زینت قرار دیا ہے، لیکن ایسی زینت جو باعث امتحان ہے۔ تاکہ جھوٹی کو ٹڑے سے اور نادان بچے کو عقلمند سے تمیز دی جاسکے اور معلوم ہو جائے کہ کون۔ شخص اس بازی کچے سے شاد و مسرور ہوتا ہے اور کون اس کے فریب میں نہیں آتا بلکہ لذتِ حقیقی، جمال واقعی اور سچی خوشی کی تلاش میں دست ہے۔  
اجمالی طور پر میرا مقصد یہ ہے کہ تاشر کی شدت اور قوت عالم برزخ میں ہے۔ جس کا اس دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوقات اس عالم کی حقیقت واصدیت کے کچھ نمونے سامنے بھی آ جاتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ مثلاً ان کے مرحم نراقی نے خزانی میں اپنے ایک موثق اور معتمد دوست کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے اپنی جوانی کی عمر میں اپنے باپ اور چند رفیقوں کے ہمراہ اصفہان میں عید نوروز کے موقع پر دید اور بازدید کے لیے جاتا تھا۔ چنانچہ ایک سو شنبے کو اپنے ایک رفیق کی بازدید یک دن گیا جس کا مکان قبرستان کے قربانی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تھر میں نہیں ہیں لہ۔ انا جعلنا ماعلی الارض نینہ لها النبؤم ایهہم حسن عمل۔ سورہ آیت ۱۳۔

ہمگ ایک مباراستہ طے کر کے آئے تھے لہذا ختنگی دور کرنے اور اہل قبور کی زیارت کیلئے قبرستان پڑھنے اور دہان تھوڑی دیر کیلئے بیٹھنے کے رفیقوں میں سے ایک شخص نے قرب کی طرف رُخ کر کے مزاج کے طور پر کہا۔ اے صاحب قبر! عید کا زمانہ ہے، کیا آپ ہمارا خیر قدم نہیں کروں گے ہنگامہ ایک آواز آئی کہ ایک ہفت بدر سے شنے ہی کو اسی جگہ آپ سب لوگ ہمارے ہمراں ہوں گے۔ اس آواز سے ہم بھی کو وحشت پیدا ہو گئی اور ہم نے خجال کیا کہ آئندہ رشتبے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، لہذا پہنچنے کا ہموں کی درستی اور وصیت وغیرہ میں مشغول ہو گئے لہذا موت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔

رشتبے کو ٹھوڑا دین پڑھنے کے بعد ہم لوگ مجع ہوئے اور طے کیا کہ اسی قبر پر چلتا چاہیے۔ شاید اس آواز سے ہماری موت مراد نہیں تھی جس سوت ہم قبر پر پہنچ چوہم میں سے ایک شخص نے کہا۔ اے صاحب قبر! اب اپنا وعدہ پورا کرو! ایک آواز آئی کہ تشریف لایئے! (اس چکدیہ بات قابلِ وجہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ بھی کبھی نکاہوں کے سامنے حامل اور مانع دیدار برزخی پر بردے کو ہدایت کیا ہے تاکہ عترت حاصل ہو) اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کامنظر بدل گیا۔ اور ملکوتی انتکھ تھل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی سرہنگہ شہزاداب اور خوشنا باغ ظاہر ہوا۔ اس میں هاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ درختوں پر ہر قسم کے اور ہر فصل کے موجود ہیں۔ اور ان پر طرح طرح کے خوش المahan بردے نے اسے بخوبی کر رہے ہیں باخ کے درمیان ہم ایک شاندار اور آرائستہ عمارت میں پہنچنے تو دہان ایک شخص انتہائی حسن و جمال اور صفائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت خالموں کی ایک حملہت اس کی خدمت میں معروف ہی۔ جب اس نے ہم کو دیکھا تو اپنی جگہ سے انہوںکے عذر خواہی کی۔ دہان ہم نے انواع

و اقسام کی شیرینیاں، میوے اور الیسی چیزیں دیکھیں کبھی دنیا میں نہ دیکھا تھا بلکہ ان کا تصویر بھی نہیں کیا تھا۔

میرا اصل مقصد ان کا یہ جملہ ہے کہ جس وقت ہم نے انھیں کھایا تو وہ اتنے لذیذ تھے کہ ہم نے کبھی ایسی لذت نہیں پکھی تھی۔ اور ہم جس قدر بھی کھاتے تھے سیر تھیں ہوتے تھے۔ یعنی پھر بھی کھلنے کی خواہیں باقی رہتی تھیں۔ مختلف اقسام کے دیگر میوے اور شیرینیاں بھی لائی گئیں اور ساتھ ہی طریق طریق کی دوسرا غذا ایسی بھی موجود تھیں جن کے ذائقے مختلف تھے۔

ایک ساعت کے بعد ہم لوگ اٹھ کر دیکھیں اب کیا صورت بیش آتی ہے۔ اس شخص نے باعث تھے باہر تک چاری رخالیت کی۔ میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ، تم کون ہو کر خدا نے تعالیٰ نے تھیں ایسی وسیع اور شاندار جگہ عنایت فرمائی ہے کہ اگرچا ہو تو ساری دنیا کو اپنا ہمان بتا سکتے ہو، اور یہ کوئی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہیں تھمارا ہم وطن اور فلک ملے کا فلاں قصاص ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا، اتنے بلند درجات اور مقامات ملنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ، دو سبب تھے، ایک یہ کہ میں نے اپنی دو کاندھاری میں کبھی کم نہیں تولا تھا۔ اور دوسری یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز ترک نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کو ترازوں میں رکھ چکا ہوتا تھا اور مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہو تو تھی تو میں اُسے وزن نہیں کرتا تھا اور تمازیکیلے مسجد چلا جاتا تھا۔ اسی لیے مرنے کے بعد مجھے یہ مقام دیا گیا ہے۔ گذشتہ ہفتے جب تم نے وہ بات کہی تھی تو اس وقت تک مجھے دعوت دینے کی اجازت حاصل نہ تھی۔ چنانچہ میں نے اس ہفتے کے لیے اذن حاصل کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں میں سے ہر فرد نے اپنی مدتِ عمر کے بارے میں سوال کیا اور

اُس نے جواب دیا۔ بنحدو اُن کے ایک استاد مکتب کے لیے کہا کہ تم نوٹے سال سے زیادہ عمر پاؤ گے، چنانچہ وہ ابھی زندہ ہے۔ اور تمیرے کہا کہ تم فلاں کیفیت اور حالت میں رہو گے اور تمہاری زندگی میں اب مزید دش پرندہ سال باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خدا حافظ کہا۔ اور اس نے ہماری مشائعت کی۔ ہم نے پھر پہنچا ہاں اور دفعہ نظر آیا کہ، ہم اسی پہلی بجگہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہ

## حالات آخرت کے بارے میں ایک روایت

جس وقت مولائے متین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد نے وفات پائی تو امیر المؤمنین روتے ہوئے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اور کہا کہ میری ماں نے اس دنیا سے انتقال فرمایا۔ حضرت رسول نبی نے فرمایا کہ میری نے رحلت کی ہے اس لیے کہ وہ معظوم پیغمبر سے بہت ہی محبت کرتی تھیں۔ اور ایک مدت تک آخرت کے ساتھ بالکل ماں کی طرح سلوک کیا تھا۔ کفن دینے کے وقت حضرت اپنا پیرا ہن لاتے اور فرمایا کہ انھیں پہنادیا جائے۔ قبر کے اندر خود تکوڑی دیر کے لیے لیٹے اور دعا فرمائی۔ پھر دفن کے بعد قبر کے سر ہانے لکھتے ہوئے اور کچھ دیر بعد بلند آداز سے فرمایا، (ابنک ابند) لا عقیل ولا جعفر، بوگون نے پیغمبر مطہر کے پوچھا کہ ان اعمال کا مطلب کیا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک روز قیامت کی برہنگی کا ذکر ہوا تو ناظر بنت اسد رونے لگیں اور مجھ سے خواہش بھی میں اپنا پیرا ہن انھیں پہناؤں۔ وہ

فشار قبر سے بھی ڈرتی تھیں، اسی وجہ سے میں انکی قبر میں یہٹ گیا تھا۔ اور دعا کی تھی۔ (تاکہ خدا انھیں فشار قبر سے محفوظ رکھے) لیکن میں نے جو یہ کہا تھا کہ (ابنک ... ) تو اس کا سبب یہ تھا کہ جب فرشتے تھے ان سے خدا کے بارے میں سوال کیا۔ تو انھوں نے کہا، اللہ۔ پیغمبر کے پاسے میں پوچھا تو کہا، محمد۔ لیکن جب امام کے بارے میں سوال ہوا تو انھیں جواب میں تردید ہوا، اسی یہ میں نے کہا، کہدو، تمہارا نزد علیٰ نہ عقفر اور نہ عقیل۔ (علوم) ہوتا ہے کہ یہ بات اس لیے پیش آئی کہ یہ واقعہ غدیر خم اور خلافت امیر المؤمنین کے صریح اعلان سے قبل پیش آیا تھا) اس مقام پر کافی گفتگو اور دروغ و نصیحت کیجا سکتی ہے فاطمہ بنت اسد جیسی جیلیں القدر اور عظیم المرتبت خالوں، اسی محترم کبی بی جو شریف ترین مقام خاذ کعبہ میں تین روز تک خدا کی تہجان رہ چکی تھیں، اسی مخدودہ جنکا شکم مبارک حضرت امیر المؤمنین کے جنم مطہر کی پر ووٹس کا اہل اور محل تھا، اور یہ دوسری عورت تھیں جو پیغمبر خدا پر ایجاد لائی تھیں، اپنی تمام تر عبادتوں کے باوجود آخرت کی سختیوں سے اس قدر ڈرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہ اس معاملہ مفتری ہیں تو یہیں سوچنا چاہیئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔

اب ہم اپنے اصل مطلب پر واپس آتے ہیں کہ مخمر مادق یعنی حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ، سوال و جواب، فشار قبر اور برہنگی قیامت وغیرہ برجی ہیں۔ لہ

## بُحْمَانِ بَدْنٍ مِّنْ رُوحٍ كَيْ تَائِشُرُ

ہر چند بزرخ میں نعمت و خوشحالی یا عذاب و عقاب روح کیسے ہوتا ہے  
لیکن روح کی قوت کے تحت بدن خالی بھی متاثر ہوتا ہے جیسا کہ بھی کبھی حیاتی کی  
شدت کے اثر سے یہ بدن قبر کے اندر بھی بو سیدہ نہیں ہوتا اور ہزاروں سال  
گزرنے کے بعد بھی تروتازہ رہتا ہے اس موضوع کے شواہد بھی ہستے ہیں ،  
شلاً ابن پابویہ علیہ الرحمہ کے ڈیڑھ سو سال قبل تقریباً فتح علی شاہ کے دور  
میں جب تعمیری کام جل رہا تھا اور اس سلسلے میں لوگ سردار کے اندر راضی  
ہوئے تو دیکھا کہ ان بزرگوار کا جنازہ بالکل تروتازہ ہے اور کفن بھی قطعاً بو سیدہ  
نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ نو سو سال سے زیادہ ۔  
گزرنے کے بعد بھی آپ کے ناخنوں سے حنا کارنگ برف طرف نہیں ہوا تھا  
اسی طرح کتاب روشنات الجہات میں لکھتے ہیں کہ ۱۲۳۸ کے دو زان بارش  
کی وجہ سے شیخ صدق علیہ الرحمہ کے مقبرہ میں رخنہ اور خرابی پیدا ہو گئی تھی لہذا  
لوگوں نے چاہا کہ اسکی اصلاح اور تعمیر کو دینیں ، چنانچہ جب قبر مبارک کے سردار  
میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا جم مظہر قبر کے اندر بالکل صحیح و سالم ہے و حالیکہ وہ  
تو مندا در تند رسست تھے اور ان کے ناخنوں پر خباب کا اشتراک ہے یہ خبر تہران  
میں مشہور ہو گئی اور فتح علی شاہ کے کافوں تک پہنچنے کی تو خود بادشاہ  
علماء کی ایک جماعت اور اپنے ارکان دولت کے ہمراہ تحقیق کے لیے گیا اور  
اس واقعے کی صورت حال اُسی طرح پائی جس طرح سُنی تھی ۔ چنانچہ  
بادشاہ نے حکم دیا کہ اُس شگکاف یا سوراخ کو بند کر کے عمارت  
کی تجدید اور آئینہ بندی کی جائے ۔ لہ

## بُرْزَخُ كَهْمَالٍ هُمْ

مگن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس قدر طول اور  
تفصیل کے ساتھ عالم بزرخ کہا واقع ہے ؟ یقیناً ہماری عقل اس کی حقیقت کو مجھے  
سچا قاصر ہے البتہ روایات میں کچھ تشبیہیں وارد ہوئی ہیں ۔ مثال کے طور پر زینوں  
اور انسانوں سمیت یہ سارا عالم دنیا عالم بزرخ کی نسبت سے ایسا ہی ہے جیسے  
کسی بیان کے اندر کوئی انکوٹھی بڑی ہو جیب تک انسان اس دنیا میں ہے  
سمیت کے اندر ایک کیڑے یا شکم مادر کے اندر ایک نچے کے ماندہ ہے جس  
وقت اسے موت آجائی ہے اور آزاد ہو جاتا ہے تو کہیں اور نہیں چلا جاتا  
بلکہ قطعاً اسی عالم وجود میں رہتا ہے لیکن اس کی محرومیت ختم ہو جاتی ہے  
اس کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے تو یہ قیود تو اس دنیا یعنی عالم  
ماڈہ و طیعت کی چیزیں ہیں ۔

اگر شکم مادر کے اندر نچے سے کہا جائے کہ تمہارے اس مسکن سے باہر  
ایک ایسی دیگر دنیا موجود ہے جس کے مقابلے میں یہ شکم مادر کی کوئی حقیقت  
نہیں رکھتا تو وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو گا ،

اسی طرح ہمارے لیے عالم آخرت قابل ادراک نہیں ہیں ۔ کیونکہ  
ہماری نظر صرف محسوسات تک محدود ہے ، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد  
ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون کسی چیزیں ہیں  
کی تھیں یہ سلسلہ ۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ مجرم صادق نے خردی ہے لہذا ہم بھی اسکی  
تصدیق کرتے ہیں ۔ عالم بزرخ اس دنیا پر محظی ہے جس طرح یہ دنیا ہم مادر

کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس سے بہتر تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ لہ  
روحلہ آپ میں اُنس اختیار کرتی ہیں

اصبغ بن ناتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام  
کو دیکھا کہ کوفہ کے دروازے میں صحرائی جانب رُخ کیے ہوئے استادہ  
ہیں اور گویا کسی سے مکالمہ یا گفتگو فرمائی ہے ہیں، لیکن میں نے کسی درستے  
کو نہیں دیکھا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ کافی درستک کھڑا رہتے  
سے تحک کر بیٹھ گیا اور حربِ شتنگی دور ہوئی تو دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اسی  
طرح پھر خستہ ہو کے بیٹھا اور کھڑا ہوا۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام اسی طرح  
استادہ اور گفتگو میں مصروف رہے۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین۔  
کس سے گفتگو فرمائے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری بیوی بات چیت مونین  
کے ساتھ انسی ہے۔ میں نے عرض کیا، مونین؟ تو فرمایا یہاں جو لوگ  
اس دنیا سے چھڑے گئے ہیں وہ یہاں موجود ہیں، میں نے عرفن کیا، صرف  
روہیں ہیں یا ان کے اجسام بھی ہیں؟ فرمایا، روہیں ہیں، اگر تم انھیں  
دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ کس طرح آپ میں حلقو باندھے ہوئے بیٹھے ہیں ایک  
دوسرے سے اُنس دھبخت رکھتے ہیں۔ باتیں کرتے ہیں اور حند اکو  
یاد کرتے ہیں۔ ۲۔

### وادی السلام روحوں کا مسکن ہے

دیگر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں جزوں  
بھی رحلت کرتا ہے اس کی روح قابِ مشائی میں جگہ پانے کے بعد جوار

امیر المؤمنین علیہ السلام میں وادی السلام کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔  
بالفاظ دیگر بجف اشرف مکوونت علیا کی ایک نمائش گاہ ہے جیسا کہ کافر  
کیلئے صحواتے برہوت ہے۔ یہ مکن کے اندر ایک بیتناک وادی ہے  
جس میں نہ گھاٹس اگلتی ہے نہ کوئی پرقدہ وہاں سے گذرتا ہے۔ یہی مکوونت  
سفلی کا محل ظہور ہے۔ تم نے حضرت علی علیہ السلام کے جوار میں رہنے  
کی اہمیت کا جو ذکر رہتا ہے وہ روحانی تجاویز کے بارے میں ہے  
ہر چند اس کا بدن دور ہو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نزدیکی حرف علم اور  
عمل کے ذریعے ممکن ہے کسی شخص سے اگر ایک گناہ سرزد ہوتا ہے تو  
وہ اسی کے اندازے کے مطابق آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر روح  
حضرت کے ساتھ ہو تو جلد خاک بھی بجف اشرف میں دفن ہوتا ہے۔ اور کتنی  
بہتر ہے یعنیم سعادت۔ لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کا جسم تو بجف اشرف پہنچ  
جائے لیکن اس کی روح وادی برہوت میں عذاب جھیل رہی ہو۔ اسی بنابر  
بوروی کوشش کرنا چاہیئے کہ روحانی اتصال توی رہے۔ البتہ جسم کا دادی السلام  
میں دفن ہونا بھی یہ اشر نہیں ہے بلکہ بوروی تائیر رکھتا ہے کیوں کہ یہ بھی  
حضرت امیر المؤمنین کی عنایت سے ایک طرح کا توش ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی عنایت کے ذیل میں کتاب مدینۃ العمالہ  
کے اندر منقول ہے کہ ایک روز مولانے تلقیاں اپنے چند اصحاب کے ساتھ  
دروازہ کوفہ کی پشت پر تشریف فرماتھے۔ آپ نے ایک مرتبہ نظر اٹھائی  
اور فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے  
عرض کیا، نہیں یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو شخص  
ایک جزاے کو اونٹ پر رکھے ہوئے لا رہے ہیں۔ انھیں یہاں سنھنچے  
میں تین دن لگیں گے تیرے روز علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اس انتظار

میں میٹھے ہوئے تھے کہ دیکھیں کیا صورت حال پیش آتی ہے۔ سب سے دیکھا کہ درسے ایک اونٹ ظاہر ہوا جس کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے ایک شخص اونٹ کی چمار پکڑے ہوئے ہے اور ایک شخص اونٹ کے پچھے چل رہا ہے جب قریب پہنچنے تو حضرت نے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے اور تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ یعنی کے رہنے والے ہیں اور یہ جنازہ ہمارے باپ کا ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے عراق کی طرف لے جانا اور صحیفہ کوفہ میں دفن کرنا۔ حضرت نے فرمایا، آیا تم لوگوں نے اس کا بسبب بھی دریافت کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میرا باپ کہتا تھا کہ وہاں ایک ایسی ہستی دفن ہو گی جو اگر سارے اہل محشر کی شفاقت کرنا چلے ہے تو کسر کتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سچ کہا اس نے پھر دو مرتبہ فرمایا، والدہ میں وہی ہستی ہوں۔

مرتّوم محمدّت قمی نے مقامِ الجنان کے اندر اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت ایم المولودین علیہ السلام کی قبر مبارک کی پناہ لے تو اس سے بہرمنہ ہوگا، ایک اچھی اور مناسب مثل بیان کی ہے۔ امثال عرب میں ہے کہ کہتے ہیں "اجھمی من محیدالحراد" یعنی اپنی پناہ میں آنے والے کے لیے فلاں شخص کی حمایت ملکیوں کو پناہ دینے والے سے زیادہ ہے اور قدماں کا یہ ہے کہ قبیلہ طے کا ایک بادیہ شیخ شخص جس کا نام مذبح بن سوید تھا ایک روز اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قبیلہ طے کے لوگوں کا ایک گردہ آیا جو اپنے ہمراہ کچھ ظروف اور بڑے تھیلے بھی لایا تھا۔ اس نے یوچھا، کیا بخیر ہے؟ انہوں نے کہا، تھارے خیمے کے چاروں طرف بے شمار قبور اتری ہیں ہم ایک شخص پکڑنے کیلئے آئے ہیں۔ مذبح نے جوں ہی یہ بات سنی اُنھے کہ اپنے گھر طے پر

سوار ہوا، نیزہ ہاتھ میں بیا، اور کہا، خدا کی قسم جو شخص بھی ان ملکیوں سے تعریف کر سکا ہے اُسے قتل کر دوں گا۔ آیا یہ ملکیوں میں جوار اور میری پناہ میں ہوں گی اور تم انہیں پکڑ لو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی طرح سے برابر ان کی حمایت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ دھوپ تیز ہوتی اور ملکیوں دہاں سے اُڑ کے جلی گئیں۔ اس وقت اُس نے کہا کہ یہ ملکیوں میں جوار سے چلی گئیں ایسی تھی جانو اور وہ جانیں۔ چنانچہ فی الجملہ یہ پڑھی امر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کو مولاًتے کائنات کے جوار میں پہنچا دے اور آپ سے پناہ طلب کرے تو قطعاً آپ کی حمایت سے فیضیاب ہو گا۔

### قریبے روح کا تعلق بہت گہرا ہے

محمدث جزاً اُسری انوار نعمانیہ کے آخری صفوات میں کہتے ہیں کہ اُگر تم کہو کہ جب روحیں قالب مثالی میں اور وادیِ اسلام کے اندر ہیں تو ان کی قبروں پر جانے کا حکم کس یہے دیا گیا ہے؟ اور وہ اپنے زائر کو کس طرح سمجھ لیتی ہیں درحالیکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں کے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روحیں ہر چند وادیِ اسلام میں ہوں لیکن ان کی قبروں کے مقامات ان کے احاطہ علیہ کے اندر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے قبور برآنے والوں اور زیارت کرنے والوں کو جان لیتی ہیں۔ امام نے اراداح کی تشبیہ آفتاب سے دی ہے، یعنی جس طرح آفتاب زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے لیکن اس کی شعاعیں زمین کے ہر مقام کا احاطہ کیتے ہوئے ہیں اسی طرح اراداح کا۔

احاطہ علمیہ ہے۔ حقیر کہتا ہے کہ جس طرح شعاع افتاب کا نظر ہو رأس مقام پر قطعاً دیگر مقامات سے زیادہ ہوتا ہے جہاں کوئی آئندہ اور بلور موجود ہو اسی طرح روح کی توجہ اور احاطہ اپنی قبر پر درسری جگہ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس بدن سے اس کی دلپی ہی اور تعلق ہونا ہی چلہتی ہے سالہاں اس کے لیے کام کیا ہے اور اس کی برکت سے سعادت اور کمالات حاصل کیے ہیں۔ اور اسی بیان سے اس شخص کا جواب بھی مل جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام تو ہر جگہ حافظ و ناظر ہیں لہذا ان کی قبر مبارک کی زیارت کیلئے جانا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اس مقام اور دیگر مقامات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انکے اور بزرگان دین کی قبروں کے مقامات ہمیشہ ان کی ارواح مقدسہ کیلئے مورد توجہ، برکتوں اور خدا کی رحمتوں کے لیے محل نزول اور ملائکہ کی آمد و رفت کی منزليں ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ان بزرگواروں کے باب کرم سے پورا فیض حاصل ہو تو اسے چاہئے کہ ان مقامات مقدسہ سے غافل نہ رہے اور جس طرح سے ہو سکے اپنے کوہاں تک پہنچائے بلکہ

### دوسرہ شبہ اور اس کا جواب

بعض لوگ ایک اور ضعیف شبہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان کی روح بدن مثالی کے نام سے ایک ططف طور پر بدن مادی سے جدا ہو جاتا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ کا یہ بیان بہت حقاقانہ ہے اور اس کے لیے کثرت سے شواہد بھی موجود ہیں۔

اسی بدن کے ساتھ ثواب و عقاب کا سامنا کرتا ہے جalandhark بج اس نے اپنے مادی اور خاکی جسم کے ساتھ عیادت کی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کا ثواب دوسرے بدن کو طے؟ یا اسی قبر کے اندر بوسیدہ اور سڑے ہوئے جسد خاکی کے ذریعہ گذاہ کیے ہیں تو وہ بدن مثالی کے لیے عذاب و عقاب میں مبتلا ہو؟ اس سوال کے جذب جواب پیش کیے جاتے ہیں۔

جیسا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں۔ بدن مثالی کوئی خارجی پہنچنے نہیں ہے۔ جسے موت کے بعد قبر پر لاایا جائے اور مثلاً اس سے کہا جائے کہ روح کے ساتھ رہ رہو۔ اب تم ہی اس کا بدن ہو! بلکہ بدن مثالی ایک لطیف بدن ہے جو اس وقت بھی انسان کے ساتھ ہے۔ ہر روح در بدن رکھتی ہے ایک لطیف اور ایک کثیف، اس نے عبادت بھی دونوں کے ساتھ کی ہے اور معصیت بھی دونوں کے ساتھ، یہ سمجھانے کیلئے کہ خوب مادی کی حالت میں دونوں ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں اس طرف متوجہ کرنا ہے مل نہ ہو گا کہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ اسی مثالی بدن کی ذریعہ ہوتا ہے۔ راستہ چلنا اور کفتکوں کو ناسب بدن مثالی آنجم پاتا ہے ایک چشم زدن میں کمر بلایہ بچ جاتا ہے، مشہد چلا جاتا ہے، اور سارے شرقي و منرب کا سفر کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی حدودی نہیں ہے۔ اسی بنابر بدن مثالی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے میکن موت کے وقت مکمل طور پر بدن مادی سے جدا ہو جاتا ہے۔ مجلسی علیہ الرحمہ کا یہ بیان بہت حقاقانہ ہے اور اس کے لیے کثرت سے شواہد بھی موجود ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ روح انسانی موت کے بعد اس کے دنیاوی جسم کے مثل ایک صورت اختیار کر لیتی ہے، نہ یہ کہ ایک خارجی بدن سے

متعلق ہوتی ہے بلکہ روح کی صورت جسم انسانی کی ہم شکل اب تم اُسے خود بدن مثالی کھو یا قلب برزخی یاروج۔ لیکن چونکہ یہ لطیف ہے لہذا عنصری اور مادی آنکھ اس کامشاہدہ نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ یہ روح تھی جس نے دنبا میں معصیت کی، اور یہی روح بعد کو عذاب میں بھی متلاکی جائے گی۔ اب یہ بدن مثالی سے وابستہ ہو یا بذات خود مستقل ہو۔ اور پھر قیامت میں اسی مادی جسم کے ساتھ مشور ہو جیسا کہ آئندہ ذکر ہو گا۔ لہ

### برزخ کا ثواب و عقاب قرآن میں

جہنم میں اس کی جگہ اتنے برزخ میں ہر صبح و شام دکھائی جاتی ہے اگر وہ عذاب پانے والوں سے ہے اور اگر اہل بہشت میں سے ہے تو بہشت میں اس کی جگہ کی نشاندہی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہاری قیام گاہ قیامت میں۔  
 ۲۔ «إِنَّمَا الَّذِينَ شَقَّوْا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَرْعٌ فَيَرُونَ شَهِيقَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ أَنْ سَبَّابَكَ فَعَالَ لَهَا يَرِيدُ وَإِنَّمَا الَّذِينَ سَعَدُوا وَافْغَنَى الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ» (سورہ ۱۱، آیت ۱۰۵-۱۰۶)  
 یعنی جو لوگ بدجنتی اور شقاوتوں والے ہیں وہ جب تک زمین اور آسمان برقرار رہے آگ میں رہیں گے۔ ان کے لیے سخت فریاد اور آہ و نالہ ہے۔ سو اس کے کہوتا ہمارا پروردگار چلے ہے۔ درحقیقت تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک بخت ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں وہ بہشت میں رہیں گے۔۔۔  
 امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بندخ کے بارے میں ہے اور یہاں برزخی عذاب و ثواب مراد ہے، ورنہ قیامت میں تو کوئی آسمان نہیں ہے، «إِذَا الْسَّمْوَاتُ انشَقَّتْ» اور زمین بھی بدل دی جائے گی، پھر زمین باقی نہ رہے گی۔ «يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمْوَاتُ وَ بَرْزَخُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»  
 سو۔ «قَدْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْلَتْ قَوْمِيْ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ الْمُكْرَمِينَ» (سورہ یسح ۲۶ و ۲۷)  
 یہ آیہ مبارکہ حبیب بخاری مون آں فرعون کے بارے میں ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو نیغمہ پریروں کی پیروی کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے

(۱) «النَّاسُ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا عِنْدَ وَلَدَعْشِيَّاً وَلِيَوْمِ تَقْوِيمِ السَّاعَةِ ادْخُلُوا إِلَيْنِي عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» سورہ عنت، آیت ۲۹  
 یعنی وہ صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور جس روز قیمت برپا ہو گی (تو حکم ہو گا کہ) آں فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل و بنجھلے اُن آیات کے جو قرآن مجید میں عذاب برزخ پر دلالت کرتی ہیں یہ آیہ شریفہ کھٹک ہے جو فرعون واولوں کے بارے میں ہے۔ جب فرعون کے ساتھی دریائے نیل میں عرق ہو کر ہلاک ہوئے اس وقت سے ہر صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں بیہاں تک کی قیامت قائم ہو اور وہ سخت ترین عذاب میں داخل ہو جائیں۔ امام جعفر مادن علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت میں صبح و شام نہیں ہیں۔ یہ برزخ کے بارے میں ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے کہ

اپنیں ڈرایا دھکایا (جیسا کہ تفسیر سرورہ لیں مذکور ہے) اور بالآخر  
انہیں سولی پر جڑھایا اور قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ ثواب الہی میں  
بہنچے، اور مرنے کے بعد کہا کہ کاش میری فوم والے جان یتھے کہ میرے  
پر دردگار نے مجھے بخش دیا اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے قرار دیا ہے اس  
مقام پر خدا کا ارشاد ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ،  
امام علیہ السلام فرماتے ہیں «یعنی برزخی جنت میں) اور دوسری روایت  
میں جنت دنیادی (یعنی بہشت قیامت سے پست جنت) سے تعبیر  
فرمائی ہے اور فی الجملہ آیہ مبارکہ کاظماً ہر یہ ہے کہ جب مومن آل فرعون  
شہید ہوئے تو بلا فاصلہ بہشت برزخی میں داخل ہوئے، اور جو نکہ  
ان کی قوم ابھی دنیا میں تھی لہذا انہوں نے کہا، اے کاش میری قوم جانتی  
کہ خدا نے مجھے کسی نعمتیں اور عطیات عنایت فرمائے ہیں تو وہ توبہ  
کر لیتی اور خدا کی طرف رجوع کر چکتی۔

۳۔ "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَأَنْ لِهِ مَعِيشَةٌ ضُنكًا وَخَشْرَهٗ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلِي" (سورہ طہ آیت ۱۲۷)

یعنی جس شخص نے یاد خدا سے روگردانی کی تو یقیناً اس کے لیے  
سخت اور اذیت ناک زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے روزانہ  
محشور کریں گے۔ زیادہ تر مفتریں کا قول ہے کہ میشتن فتنک سے  
عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ مطلب  
امام زین العابدین علیہ السلام سے مرد ہے۔

۵۔ "يَحْتَى إِذْ لَجَاءَ وَحْدَهُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونَ لَعَلَى أَعْمَلِ  
صَاحِبِيْمَا تَرَكَ كَلَّا إِنَّهَا كَامَةٌ هُوَ قَائِلُهَا مَنْ وَرَأَهُمْ  
بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ" سورہ مومنون آیت ۱۲۱۔

یعنی یہاں تک کہ ان میں (یعنی کفار میں) سے کسی فرد کی موت آتی ہے تو  
وہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار! مجھے دنیا میں والپس کر دے تاکہ میں نے  
جو فروگداشت کی ہے اس میں کوئی نیک عمل بجا لاؤں تو اس کے جواب  
میں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو گا (یعنی تم والپس نہیں ہو سکتے) وہ دراصل  
ایسی بات کہتا ہے جوکی کوئی فائدہ نہیں اور ان لوگوں کے سچے عالم بزرخ  
ہے اس روز تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ لازمی طور سے یادیت  
اس بات پر نجوبی دلالت کر رہی ہے کہ دنیادی زندگی کے بعد اور  
حیات آخرت و مقامت سے پہلے انسان ایک اور زندگی کرھتا  
ہے جو ان دونوں زندگیوں کے درمیان حدفاصل ہے اور اسے  
عالم برزخ یا عالم قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ فی الجملہ مذکورہ آیات  
اور دیگر آیتوں میں مجبوی طور سے غور و تدبیر کے بعد یہ بات ثابت  
اور واضح ہو جاتی ہے کہ روح انسانی ایک ایسی حقیقت ہے جو بدن  
کے علاوہ ہے اور روح کا بدن کے ساتھ ایک طریقہ کا استحاد ہے  
جو ارادے اور شعور کے ذریعے بدن کا انتظام چلاتی ہے اور انسان  
کی شخصیت روح سے ہے بدن سے نہیں کہ وہ موت کے بعد ختم ہو جائے  
اور اجزلے بدن کے مقتشر ہو جانے کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائے بلکہ انسان  
کی حقیقت اور شخصیت از روح (باقی رہتی ہے اور ایک سعادت دھیات  
جاوہانی یا شقاویت ابتدی میں بس رکرتی ہے۔ اس عالم میں اس کی سعادت  
و شقاویت ملکات اور اس دنیا میں اس کے اعمال سے وابستہ ہے نہ کہ  
اس کے جسمانی پہلوؤں اور اجتماعی خصوصیات سے حکما کے اسلام نے بھی  
یہ ثابت کرنے کیلئے کرو جسم کے علاوہ ہے اور موت سے نسبت و  
تاواریخ میں ہوئی اور اس کی وجہاں میں موت کے امور پر اکانہ یہاں

عقلی دلیلیں قائم کی ہیں لیکن خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے احوال کے بعد ہمیں انکی احتیاج نہیں ہے اور یہ مطلب ہمارے بارے سے آفتابے بھی زیادہ روشن ہے۔

(۴) - برزخی جنت کے بارے میں جو ایتیں نازل ہوئیں بنحدان کے سورہ فخر کا آخرتی حصہ بھی ہے جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ: یا ایتھا النفس امطمئنة ارجعي الى ربک را خيبة مرضية فادخلی في عبادی وادخلی جنتی۔

اسیں نفس مطمنہ رکھنے والے سے موت کے وقت خطاب ہوتا ہے کہ ”داخل بہشت ہو جاؤ“ یہاں برزخی جنت کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے اور اسی طرح ”میرے بندوں (کے نامے) میں داخل ہو جاؤ“ یعنی محمد و آل محمد علیہم الصلواۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ ان کے علاوہ دیگر ایتیں بھی ہیں جن میں صریحًا یا کتابیہ برزخی بہشت اور یہم کے بارے میں ذکر ہوائے ہیں اسی قدر کافی ہے۔

### برزخی ثواب و عقاب روایتوں میں

عالم برزخ میں ثواب و عقاب سے متعلق روایتیں کثرت سے ہیں یہاں چند روایات پر اتفاقی جاتی ہے۔ بخاری الانوار جلد ۳ میں تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے اور انھوں نے حضرت ایم المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، جس وقت ادی دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے روز کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا مال، اولاد، اور عمل اس کے ساتھ جنم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مال کی طرف رُخ کرتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم میں تیرے بارے میں حریص اور بخیل تھا،

اب تیرے پاس میرا حصہ کس قدر ہے؟ وہ کہتا ہے، اصرف اپنے کفن کے مطابق مجھ سے لے لے۔ اس کے بعد وہ اپنے فرزندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم میں تھیں عزیز نر کھاتا تھا اور تمھارا جامی و مردگار تھا اب تمھارے پاس میرا حصہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہم تھیں تمھاری قدر تک پہنچا کے اس میں دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے علی کی طرف رُخ کرتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے تیرے کا طرف اتفاقات نہیں کی اور تو میرے ادی پر گراں تھا، اب تیرے جانب سے میرا حصہ لکھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں قبر اور قیامت میں تمھارا ہم نشین رہوں گا یہاں تک کہ میں اور تم دنوں تمھارے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

اگر یہ شخص خدا کا ذوست ہے تو اس کا عمل انتہائی نفیس خوشبو انتہائی حسن و جمال اور ایک بہترین بیاس و ایسے شخص کی صورت میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بشارت ہو مکورِ وجہ و ریحان اور خدا کی بہشت نعیم کی، اور تمھارا آنامبارک ہو۔ یہ شخص پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے، میں تمھارا عمل صاحب ہوں اب دنیا سے جنت کی طرف روانہ ہوں یا اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، اور اپنا جسم سنبھالنے والے کو قسم دیتا ہے کہ اسے جلد جلد حرکت دے۔ پھر جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو دوسری سوچوں کے اندر امتحان لینے کیلئے آتے ہیں اس حالت میں کہ اپنے بال زمین پر کھینچ رہے ہوتے ہیں، زمین کو اپنے دانتوں سے شکافہ کر دیتے ہیں ان کی آوازیں بادل کی سخت گرج کی مانند ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں بجلی کی طرح تڑپتی ہیں اس سے کہتے ہیں کہ تمھارا پروردگار کون ہے؟ تمھارا پیغمبر کون ہے؟ اور تمھارا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے، میر پروردگار خدا ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور میر امداد محب اسلام ہے

وہ ہکتے ہیں، خدا تم کو اس جیسے میں ثابت قدم رکھ جس کو تم دوست رکھتے ہو تو جس سے راضی ہو۔ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے: «یتبثت اللہ الٰہ اللہ میں امنیہ بالقول النّاشیت فی الحیوۃ الدنیاوی فی الآخرۃ»۔ اس کے بعد اس کی تکریروہاں تک وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک نظر کام کرنی ہے اس میں جنت کا ایک دروازہ گھول دیتے ہیں، روشن آنکھوں کے ساتھ سوچاؤ۔ جس طرح ایک خوش نصیب اور کامیاب نوجوان سوتا ہے۔ یہ وہی جیسے ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے، «اصحاب الجنة خیر مستقر اواحسن مقصد»۔

لیکن اگر دشمن خدا ہو تو اس کا عمل بدترین بیان اور شدید ترین بدوکھ کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بشارت ہو جھو کو دوزخ کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنم میں داخل ہونے کی۔ وہ اپنے عنل دینے والے کو دیکھتا ہے اور اپنا جسم بخالنے والے کو قسم دیتا ہے کہ اسے اپنے حال برچھوڑ دے۔ جس وقت اُسے قبر میں داخل کرتے ہیں تو آزمائش کرنے والے قبریں آتے ہیں، اس کا لفظ یقینج لیتے ہیں اور اس سے پتے ہیں کہ تیراپندر دگار کون ہے؟ تیراپندر کون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہیں یوں چانتا۔ وہ ہکتے ہیں تو نہ جانے اور ہمایت نہ پائے۔ پھر ایک آہنی عصا سے اس پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ سوا جنات اور انساون کے دنیا کی ہر تحریک مخلوق اس کے اثر سے دھشت زدہ آر جاتی ہے۔ اس سے بعد انہیں جہنم کا ایک دروازہ اس مکھوں پر احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ وہاں نامناسب نہ ہو۔ اس سے بعد سو اُسے

ایسے تنگ مکان میں جگہ دی جاتی ہے جو نیزے کے پھل کے اس سوراخ کے ہم زندہ ہوتی ہے جس میں نیزے کی آخری نوک نصب کی جاتی ہے۔ اور اس پر اس قدر سخت فشار ہوتا ہے کہ اس کا بھیجا اس کے داخلوں اور کافلوں پر بے باہر آتا ہے خدا اس پر ساپوں اور بچھوؤں اور ہشرات الارض کو سلط فرماتا ہے کہ اسے ڈیں اور ڈنک ماریں، اور یہی حالت قائم رہے گی یہاں تک کہ خدا اسے اسکی قبر سے اٹھائے۔ وہ اتنے شدید عذاب میں ہو گا کہ جلد قیامت برپا ہونے کی آرز و کرے گا۔

نیز امالی شیخ طوسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس کے آخر میں امام نے فرمایا ہے کہ، جس وقعت خدا  
مرنے والے کی بروح قیصی فرماتا ہے اور اس کی روح کو اصلی (دنیا وی) صورت کے ساتھ بہشت میں داخل فرماتا ہے تو یہ دنیا  
کھاتی اور پیتی ہے اور جس وقت کوئی تمازہ ریوچ اس کے سامنے آتی  
ہے تو یہ اس کا اسی صورت میں پہچانتی ہے جو صورت اس کی دنبا  
میں تھی۔

دوسری حدیث میں فرمایا کہ مومنین کی رو جیس ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، آپس میں سوال و جواب کرتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اس حد تک کہ اگر تم کسی وقت ان میں سے کسی کو دیکھو تو کہو گے کہ ہاں یہ تو دو ہی شخص ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رو جیس اپنے جسمانی صفات کے ساتھ جنت کے ایک بارغ میں قیام کرتی ہیں۔ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں۔ جسم وقت کوئی بھی لمحہ ان سے پاس وار دیکھتی ہے تو کہی بڑا، اسے اپنے فوج دی

(ادر اپنے حال پر چھوڑ دو) کیونکہ یہ ایک عظیم ہوں (یعنی موت کی وحشت) سے گزر کر ساری طرف آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں شخص کیا ہوا اور فلاں شخص کس حال میں ہے؟ اگر یہ روح کہتی ہے کہ جب میں آئی تو زندہ تھا، تو اس کے بارے میں امید کرتی ہیں (کہ وہ بھی ہمارے پاس آئے گا) لیکن اگر کہتی ہے کہ وہ دنیا سے گزر چکا تھا، تو کہتی ہیں کہ وہ گر گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارة ہے کہ وہ چونکہ ہمارے پاس آیا تھا ایقیناً دوسرخ میں گیا ہے۔

بخار الانوار جلد ۳ میں کتاب کافی دغیرہ سے چند روایتیں نقل کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ، روز میں عالم برزخ میں اپنے اہل خانہ اور اقراب کی زیارت و ملاقات اور دریافت حال کیلئے آتی ہیں۔ بعض روزاں، بعض دو روز میں ایک بار، بعض یعنی روز میں ایک بار، بعض ہر جمعہ کو، بعض چھینی میں ایک مرتبہ اور بعض سال میں ایک مرتبہ اور یہ اختلاف حالات کے تفاصیل کے مقام و مکان کی وسعت و فراخی اور صیغہ و تنگی اور ان کی آزادی و گرفتاری کے اعتبار سے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ مومن اپنے گھر والوں کی صرف وہی چیزیں اور حالات دیکھتا ہے جو بہتر اور اس کے لیے باعث سستا ہوں اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے اس کو رنج یا تکلیف پہنچے تو وہ اس سے چھپا دی جاتی ہے۔ اور کافر کی روح سوادی اور اسکو اذیت پہنچانے والے امور کے دوسری کوئی چیز نہیں دیکھتی۔

**وض کو شر برزخ میں**

ستعد کتابوں میں عبد اللہ بن سنان سے مردی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سےوض کو شر کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اس کا طول اتنا ہے جتنا بصرے سے صنعت ایمن تک کافاصلہ۔ میں نے اس پر تعجب کیا تو حضرت نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمھیں اس کی نشاندہی کروں؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے مولا! حضرت مجھکو مریشے سے باہر لے گئے اور پاؤں زمین پر مارا پھر مجھ سے فرمایا، دیکھو! (ملکوتو پر وہ امام کے حکم سے میری انکھوں کے سامنے سے ہٹا گیا) میں نے دیکھا کہ ایک نہ رضاہر ہوتی جس کے دونوں سرے نگاہوں سے اوچل تھے البتہ جس مقام پر میں اور امام استادہ تھے ذہ ایک جنم برسے کے مانند تھا۔ مجھکو ایسی نہر نظر آتی جس کے ایک طرف پانی پر رہا تھا جو ریف سے زیادہ سفید تھا اور دوسری طرف دودھ کا دھار رہا تھا یہ بھی برف سے زیادہ سفید تھا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایسی شراب جاری تھی جو سرخی اور رطافت میں یا قوت کے مانند تھی۔ اور میں نے بھی دودھ اور پانی کے درمیان اس شراب سے زیادہ کوئی خلصہ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، میں آپ پرندہا ہو جاؤں، یہ نہ کہاں سے نکلی ہے؟ فرمایا اُن چشمکوں سے ہے جن کے بارے میں خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ، بہشت میں ایک چشمہ دودھ کا، ایک چشمہ پانی کا اور ایک چشمہ شراب کا ہے، وہی اس نہیں جاری ہوتے ہیں اس کے دونوں کناروں پر درخت تھے اور ہر درخت کے درمیان ایک حور تھے۔

لہ۔ کتاب اختصاص۔ بصائر الدراجات۔ بخار الانوار جلد ۳  
۱۵۲، اور معالم الزلفی وغیرہ۔

جس کے باال اس کے سر سے جھول رہے تھے کہ میں نے ہرگز اتنے ہیں  
باال نہیں دیکھے تھے، ہر ایک کے باال میں ایک ظرف تھا کہ میں نے لئے  
خوبصورت ظرف بھی قطعاً نہیں دیکھے تھے۔ یہ دنیاوی ظروف میں سے  
نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت ان میں سے ایک کے قرب پر تشریف  
لے گئے اور اشارہ فرمایا کہ پانی لاو! اس حوریہ نے ظرف کو اس نہر سے  
پیر کر کے آپ کو دیا اور آپ نے نوش فرمایا، پھر مزید پانی کیلئے اشارہ  
فرمایا۔ اور اس نے دوبارہ ظرف کو بھرا جسے حضرت نے مجھے عنایت فرمایا  
اور میں نے بھی پیا۔ میں نے اس سے قبل بھی ایسا خوشگوار، لطیف  
اور لذید کوئی مشروب نہیں چکھا تھا۔ اس سے مشک کی نوشتوار ہی تھی  
میں نے عرض کیا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے  
اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے دہم دھان میں بھی نہیں  
تھا کہ ایسی لوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، حضرت نے فرمایا کہ، خداوند عالم  
نے ہمارے شیعوں کیلئے جو کچھ ہبھا فرمایا ہے اس میں سے کمتر پچیزہ  
ہے۔ جب منے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو اس نہر  
کی طرف یجااتے ہیں، وہ اس کے یاغوں میں چہل قدمی کرتا ہے، اسکی  
غذا میں استعمال کرتا ہے اور اس کے مشروبات پیتا ہے۔ اور جب ہمارا  
دشمن مرتلتے تو اس کی روح کو وادی البرہوت میں لے جاتے ہیں جہاں  
وہ ہمیشہ اس کے عذاب میں متلا رہتا ہے، اس کا ز قوم (تھوڑا کا بھل)  
اُسے کھلاتے ہیں اور اس کا حیم (کھولتا ہوا پانی) اس کے حلق میں اندیتے  
ہیں، پس خدا کی پناہ مانگو اس وادی سے۔

منحمدہ ان اشخاص کے جھنوں نے اس عالم میں بزرخی بہشت کو  
دیکھا ہے۔ حضرت سید الشہداء، علیہ السلام کے اصحاب بھی ہیں جنھیں۔

حضرت نے شب عاشوراً اس کا منظر دکھایا تھا۔ بخار الانوار جلد پندر میں  
بام محمد باقر علیہ السلام سے مردی ہے کہ کوئی مومن متوفی اس دنیا سے  
نہیں ہے لیکن یہ کہ اسے آخری سانس میں حوض کو شکاذ القی جھکھایا  
جاتا ہے۔ اور کوئی کافر نہیں مرتا ہے لیکن یہ کہ اسے جہنم جہنم کا مژہ چکھایا  
جاتا ہے۔

## برہوت بزرخی جہنم کا مظہر

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے وادی السلام نیکنخت اور سعادتمندر رحوں  
کے ظہور اور جمع ہونے کا مقام ہے، اور برہوت جو ایک خشک اور  
بے آب و گیاہ بیان ہے۔ بزرخ کا مظہر اور کثیف و خبیث  
ازواج کا محل عذاب ہے اس بارے میں ایک روایت پیش کرنا ہو  
تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک روز ایک شخص حضرت  
خاتم الانبیاءؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پانی و حشت کا اظہار کرتے  
ہوئے عرض کیا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ آنحضرت نے  
فرمایا کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری زوجہ سخت علیل ہوئی  
تو لوگوں نے کہا کہ اگر اس کنوں کا پانی لاو جو وادی البرہوت میں ہے تو یہ  
اس سے صحتیاب ہو جائے گی۔ (بعض جلدی امراض معدنی پانی سے دور  
ہو جاتے ہیں) چنانچہ میں تیار ہوا، اپنے ساتھ ایک مشک اور ایک  
پیالہ لیا تاکہ اس پیالے سے مشک میں پانی بھروں، جب وہاں پہنچا  
تو ایک وحشت ناک صحرانظر آیا، یاد جو دیکھ میں بہت درا یکن دل  
کو مضبوط کر کے اس کنوں کو تلاش کرنے لگا ناگہاں اور پر کی طرف سے  
کسی چیز نے زنجیر کی مانند آواز دی اور نیچے آگئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک

شخص ہے جو کہ رہا ہے کہ مجھے سیراب کر دو رہنے میں ہلاک ہوا۔ جب میں نے سر بنز کیا تاکہ اسے پانی کا پیالہ دوں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ اور جوں ہی میں نے اسے پانی دینا چاہا اسے اور پر کی طرف کھینچ لیا گیا۔ یہاں تک کہ آفتاب کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دو مرتبہ مشک میں پانی بھرنا چاہا لیکن دیکھا کہ وہ پنج آتا اور یانی مانک رہا ہے میں نے اسے پانی کا ظرف دینا چاہا تو اسے پھر اور کھینچ لیا گیا اور آفتاب کے قریب پہنچا دیا گیا۔ حبیتین مرتبہ ہی اتفاق ہوا تو میں نے مشک کا دہان بازندہ لیا اور اسے پانی نہیں دیا۔ میں اس امر سے خوفزدہ ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اس کا راز معلوم کر سکوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بد سخت قابیل تھا۔ لہ (یعنی حضرت ادم کا بیٹا جس نے اپنے بھائی حضرت یامیل کو قتل کیا تھا) اور وہ روز قیامت تک اسی مقام پر عذاب میں گرفتار رہے گا۔ یہاں تک آخرت میں جنم کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

کتاب نور الاصار میں سید مولانا شبلنجی شافعی نے ابو القاسم بن محمد سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا۔ میں نے مسجد الحرام میں مقام ابراہیم پر کچھ لوگوں کو جمع دیکھا تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ انھوں نے بتایا کہ ایک راہب سماں ہو کر مکہ معلوٰۃ ایا ہے اور ایک عجیب واقعہ سناتا ہے میں آگے پڑھا تو دیکھا کہ ایک عظیم المحتشم بوڑھا شخص پشینہ کا لباس اور بُپی پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں سمندر کے کنارے اپنے دیر میں

۱۰۔ فطّوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ ع۵۔ آیت ۳۳۔

رہتا تھا۔ ایک روز سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے گدھ سے شبار پرندہ آیا اور پھر کے اور پر بیٹھ کے قی کی جس سے ایک آدمی کے جسم کا چوتھائی حصہ خارج ہوا۔ اور وہ پرندہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور دوسرے چوتھائی حصے کو قی کر کے اگلا۔ اسی طرح چار بار میں انسان کے سارے اعضا کو اگل دیا جن سے ایک پورا آدمی بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس عجیب امر سے حضرت میں تھا کہ دیکھا، وہی پرندہ پھر آیا اور اس آدمی کے چوتھائی حصے کو نکل کے چلا گیا۔ اسی طرح چار بار میں پورے آدمی کو نکل کے اڑ گیا۔ میں متوجه تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ مجھکو افسوس تھا کہ اس سے بُوچا کیوں نہیں۔ دوسرے روز پھر ہبھی صورت حال نظر آئی۔ اور جب پوچھی دفعہ کی قی کے بعد وہ شخص مکمل آدمی بن کے کھڑا ہوا تو میں پسے صو معے سے دوڑا اور اسے خدا کی قسم دی کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس سفے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا، میں تھیں اس ذات کے حق کی صورت میں بتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابنِ مجسم ہوں۔ میں نے کہا تمھاں کیا قصہ ہے؟ اور اس پرندے کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے علی ابن ابی طالب کو قتل کیا ہے؛ اور خدا نے اس پرندے کو میرے اور مسلط کر دیا ہے کہ جس طرح تم نے دیکھا ہے مجھ پر عذاب کرتا رہے۔

میں صو معے سے باہر آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ مجھ سے بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابنِ عُمَر و مصی پر چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حج بیت الحرام اور زیارت قبر رسولؐ سے مشرف ہوا۔

## عقل معااد اور خير و شر کا ادراک کرتی ہے

خدا کے تعالیٰ عقل کے جو خصوصیات اور آثار انسان کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی معااد کو سمجھ سکتی ہے، چنانچہ ایک بزرگ کے قول کے مطابق اگر فرض کر لیا جائے کہ وجود نہ ہوتا تب بھی عقل انسانی معااد کو دریافت کر سکتی تھی۔ اس دنیا و نبی نہیں کوئی غایت اور مقصد کی حامل ہونا چاہیئے تاکہ اس میں انسان پسند کمال و ارتقاء اور سعادت پر فائز ہو سکے،

یہ خیر و شر کا ادراک اور اس کی صحیح تعبیر کے مطابق جو رواست میں منقول ہے خیر الخیرین (یعنی دو نیکیوں میں سے بہتر نیکی) کا ادراک کر سکتی ہے (کیوں کہ حقیقی اور واقعی شر ہماری فطرت میں موجود نہیں ہے بلکہ جوچھے موجود ہے یا خیر محض ہے۔ یا اس کے خیر ہونے کا جذبہ غالب ہے لیکن یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے)۔ یہ اس خیر یا اس خیر کو معلوم کر سکتی ہے اور اپنے ذاتی یا کسی دوسرے کے افعال میں خوبی اور بدی کی نیز کر سکتی ہے لہ

## عقل علمی اور اس کا کم یا زیادہ ہونا

اسی بنابر حکماء کا قول ہے کہ عقل دشیعہ رکھتی ہے، علمی اور عملی عقل علمی وہی ہے اور حکماء کا قول ہے کہ عقل دشیعہ رکھتی ہے، علمی اور عملی صفات حکماء، اس کے آثار اور خواص اشیاء کے بارے میں ہیں۔

عقل علمی اعمال کی خوبی و بدی اور کاموں کے صحیح و فاسد ہونے کا ادراک ہے یعنی یہ سمجھ سکتی ہے کہ کون سا کام بہتر ہے تاکہ اسے انجام دے اور کون سا کام بُرا ہے تاکہ اس سے باز رہے۔ اپنی سعادت اور شقاوتوں کے اسباب کو سمجھے، یکونکہ یہ ایک فطری امر ہے اور خدا نے اسے انسانی سرنشیت میں دلیعت فرمایا ہے جو تمام افراد بشر کو معمول کے مطابق دیا گیا ہے۔ ہر چند کہ خدا نے بعض انسانوں کو دوسروں سے زیادہ دیا ہے اور ساتھ ہی اس سے کام لینے سے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ غرض کہ ابتداء میں سب انسانوں کو یہ قوت یکسان طور سے دی گئی ہے۔ اگر اسے استعمال میں لائیں تو ترتیب وازنیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر اسے معطل کر دیا یعنی اس کے قوانین و ہدایات کو باقاعدہ تاثیر کا موقع نہیں دیا تو رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خلقت ہے جسے خداوند عالم نے افراد بشر میں فرار دیا ہے۔ میدا، اور معااد کو پہچاننے کیلئے فیضانِ الہی کے واسطے اور دیسلے یعنی پیغمبر اور امام پاں اور اسی طرح عقل علمی کے روشنیتے بھی۔

## تم نے اپنی آخرت کیلئے کیا بنا یا ہے؟

لَا دَارَ لِلْهُرَ بَعْدَ الْمَوْتِ يُسْكَنُهَا      الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بَانِيهَا  
فَانْبَاهَا خَيْرٌ طَابٌ مُسْكِنٌ      وَانْبَاهَا شَرٌّ خَابٌ تَحْمِيهَا  
يُعْنِي أَدْمِي كَيْلَيْمَ مَوْتٍ كَبَعْدِ كَوْئِيْ كَهْرَبَرِيْسِ مِنْ هِيْسِ      سُوا  
اس کے جو اس نے اپنی موت سے قبل بنا یا ہے

(اب تین چہار تک بھی اس کے ساز و سامان کو درست کیا ہو) اگر اسے نیکی اور خیر کے ساتھ تعمیر کیا ہے تو خوشحال اس کا جواہری قبر کیلئے روح و رحمان چیا کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر کسی نے اسے برائیوں اور گناہوں سے بنایا ہے تو اس نے اپنے بیاس، خوارک، مسکن، اور ہر چیز کو اس سے تیار کیا ہے۔

### بہشت، برزخ اور بہشت قیامت

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے آئیہ مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے "جنتان" (یعنی دو جنتوں) کے بارے میں ایک مناسب صورت کا ذکر فرمایا ہے کہ، نمکن ہے ایک جنت بزرخ میں اور دوسرا جنت قیامت میں ہو۔ جس وقت سے مومن کی روح بعض ہوتی ہے وہ برزخی جنت کے نازدِ نعم میں رہتا ہے جو انواع و اقسام کی برزخی نعمتوں کے ساتھ ایک دیسیع باع ہے اور قرآن مجید میں بھی برزخی جنت کیلئے شواہد موجود ہیں (بڑا ۲۷) علاوہ اس جنت کے جو قیامت میں ہوگی اور جس کا امیشہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے گے

برزخ کے بارے میں ایک شبہ  
علم بزرخ کے بارے میں زندیقوں نے ایک شبہ پیدا کیا ہے جو

تو اس کے لیے یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جس وقت عالم بزرخ کے عذاب کا ذکر فرماتے ہیں تو زوی عرض کرتا ہے کہ بزرخ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ موت کے وقت سے قیاست تک ہے۔ چنانچہ قبر کا غار عالم بزرخ اور روح کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے ذیکر کے جسد خاکی کے بو سیدہ ہو جانے سے بزرخ تمام ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں قبر کا نام لیا گیا ہے (۱) عالم بزرخ مراد ہے ذکر جسمانی قبر۔ اور یہ جو روایت میں وارد ہوا ہے مکر خدا مومن کی قبر کو وسعت دیتا ہے تو اس سے مراد بزرخ کا عالم روحاں ہے

لے کتاب توحید ص ۳۲۳۔ ۳۲۰ قیل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون۔  
... (۱) اسن ۲۴۸ آیت ۲۵۔ ۳۲۵۔ سلہ مزید تفصیل کیلئے شہید حواب آیۃ الشدستغیب کی کتاب  
قلب قرآن تفسیر سورہ یسین میں آئیہ مذکورہ کے ذیل میں، نیز کتاب معاد فصل دوم  
(رزخ) کی طرف رجوع کروں۔

۳۲۹۔ کتاب بہشت جاوہ دل ص

بقر کی ظلمت اور روشنی جسمانی اور مادی ہیں ہے۔ افسوس، کاش جسمانی اور مادی ہوتی "ابکی نظمہ قبری" یعنی میں اپنے عمل کی تاریکی کھلئے روتا ہوں۔ ایک شخص عصوم سے اس شخص کے فشار قبر کے بارے میں سوال کرتا ہے جسے سوئی دی کئی ہوا درودہ بر سوں دار بر شکار ہے، تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ، جو زمین کا مالک ہے دہی ہوا کا بھی مالک ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ اسے فشار قبر سے زیادہ سخت فشار دے (یعنی اگر وہ اس فشار کا مستحق ہو) چنانچہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ، "ان رب الارض هورب الهواء فيوحى الله الى المهواء فيضغطه اشد من ضغطة القبر"۔ بخار الانوار جلد ۳ ص ۱۳۶۔

ایک محقق بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص خدا، حضرت رسول نما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دحی پیر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے انس مطالب کا قبول کر لینا آسان ہے۔

### خواب برزخ کا ایک بچھوٹا سا نمونہ ہے

دنیا میں عالم برزخ کا نمونہ خواب دیکھنا ہے۔ آدمی خواب میں عجیب بعیب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ ہمیں بچاؤ، لیکن جان گئے کے بعد اپنے قریب کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میری آواز سنی تھی؟ تو وہ ہکتے ہیں، ہمیں! در حالیکہ وہ خود یہ خیال کر رہا تھا کہ زیادہ خنخے کی وجہ سے اس کے لگلے میں خراش اگکی ہے یا یہ دیکھتا ہے کہ وہ فریزوں میں قید ہے اور دباؤ کی شدت سے اس کا دام گھٹ رہا ہے، وہ ہر چند مدد کیلے پکارتا ہے لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا اسی طرح خلاہی

جانتا ہے کہ مردے کس قدر نال دفریا کرتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے یقیناً دہ ایک دوسری ہی جگہ ہے۔ البتہ بھی کبھی باطنی امور ظاہری حالت یہیں بھی سرات کرتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام جو ناطق جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خواب دردیا ابتدائی خلقت میں نہیں تھا۔ انبیاء والقین میں سے ایک بھی جب قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو لوگ کچھ سوالات کرتے تھے۔ مثلًا کہتے تھے کہ مردہ کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ چنانچہ اسی رات جب وہ سوئے تو کچھ خواب دیکھے اور صبح کو ایک دوسرے سے بیان کیے۔ نیز اپنے پیغمبر سے بھی ان کا ذکر کیا، تو ان پیغمبر نے فرمایا کہ تھارے اور بڑھا کی جست شام ہو گئی، یعنونکہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ ایک نمونہ ہے اس کا جو مرے کے بعد دیکھو گے، بھی کبھی امور باطنی ظاہر میں بھی اثر دکھاتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرستان کی زیارت کو جادو اور فاتحہ پڑھو، جبکہ مردے کی روح خاک کے اس نقطے میں محدود نہیں ہے بلکہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن چونکہ آں کا جسد خاکی اس نقطہ خاک میں دفن ہے لہذا وہ اس مقام سے تعلق رکھتی ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ مون کی روح ایم المونین علی علیہ السلام کے حوار میں دادی الاسلام کے اندر اور کافر کی روح بر ہوتی میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد جسم برزخی ہوتا ہے جو دنیا وی جسم کی طرح لکھیف نہیں ہوتا وہ کسی مادی ساز و سامان کا عحتاج نہیں ہوتا اور اسقدر لطیف ہوتا ہے کہ بعض روحیں (اگر قید و بند میں نہ ہوں) تو سارے عالم کا احاطہ کر سکتی ہیں۔

مرحوم شیخ محمد عراقی نے اپنی کتاب "دارالسلام" کے آخر میں نقل کیا ہے کہ سید حلیل اور عارف بنیل سید محمد علی عراقی نے (جو ان لوگوں میں

شمارہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت حجتؑ کی زیارت کی ہے) فرمایا کہ جب میں اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے اصلی دلی (قریب کرم روڈ جو عراق تک قابل سس سے ہے) میں رہتا تھا تو ایک شخص نے جس کے نام و نسبے میں واقع تھا دفات پائی اور اسے اس قرستان میں لاکر دفن کیا گیا۔ یو میرے مکان کے بالکل سالم تھا۔ جائیں روز تک روزانہ جب مغرب کا وقت آتا تو اس کی قبرؓ کے آثار ناظر ہوتے تھے اور میں اس کے اندر سے برا بجان سوزنا لوں کی آواز میں سُننا کرتا تھا استادی دنوں میں تو ایک شب اس کے گردیہ وزاری اور نال و فریاد نے اتنی شدت اختیار کی تھی میں خوف و ہراس کی وجہ سے لرزنے لگا اور جھپٹتی طاری ہو گئی۔ میرے ہمدرد اشخاص متوجہ ہوئے اور مجھے اپنے گھر اٹھا لے گئے۔ کافی مدت کے بعد میں اپنی صبح حالت پر آیا لیکن اس میت کا جو حال دیکھا تھا اس سے متعجب تھا کیونکہ اس کے حالات زندگی اپسے انعام سے مطالبہ تھے نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک مدت تک حکومت کے ذفتر میں کام کر رکھا تھا۔ وہ ایسے ایک شخص سے جو سید بھی تھا مالیات کے سلسلے میں اتنی رقم کا سختی سے مطالبہ کر رہا تھا اسے ادا کرنے پر وہ سید قادر نہیں تھا چنانچہ اس شخص نے اسے قید خانے میں ڈال دیا اور ایک مدت تک اس کو حجت سے لٹکائے رکھا۔ مر جم عراقی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نام و نسب کا ذکر نہیں کیا۔

اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب سید مذکور نے نقل کیا کہ میں ہم سے امام زادہ حسن کی زیارت کیلئے ایک قریب میں گیا۔ میرا ایک

ساتھی روضے کے صحن میں ایک قبر پر بیٹھا دعا میا زیارت پڑھنے میں مشغول تھا یہاں تک کہ عزوب افتاب کی وقت دفعتہ اس قبر کے اندر سے تیز کمری ظاہر ہوئی تو یا اس نکے اندر کسی لوہار کی بھی جل رہی تھی اور اس قبر کے قریب تھہرنا ممکن نہ تھا حاضرین کے مجمع میں نے بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا۔ جب میں نے قبر کی روح کو پڑھا تو اس پر ایک عورت کا نام نقش تھا۔

مطلوب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں روح کے عذاب کی شدت اس جسد خاکی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے مثال کے طور پر بزرگ ایں معاویہ علیہما الہماؤہ کی قبر جس وقت نبی علیہما السلام نے بنا اہمیت کی قبر کو تھدا دیا تاکہ ان کے احصاد کو نذر آتش کریں تو بزرگ کی قبر میں لاکھ کی ایک لیکر کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا جو اس لیکن کچھ ہوئے جسد خاکی کی علامت تھی۔ اور اس مطلب کے شواہد بہت یہیں، میکن جس قدر ذکر کیا گیا ہے کافی ہے۔

چنانچہ جب روح عالم برزخ میں انتہائی بہجت و سرور اور وقت حیات کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا جسد خاکی بھی زندگی کے چیزیں اور مرتبے سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اور اس مطلب کے شواہد نہ نہیں بھی کافی نعداد میں ہیں۔

### صرف چند موارد نقل کرنے پر اکتفا۔

سفينة البخار جلد ۲ ص ۵۶۸ میں نقل کیا گیا ہے کہ جس زمانے میں معاویہ کے حکم سے زیر زمین نہر جاری کرنے کیلئے کوہ احد کو کھو دا جاری تھا تیشہ حضرت جزہ کی انگلی میں لگ گیا اور اس سے خون جاری ہو گیا

یہ ہے کہ سیلاب آجائے کی وجہ سے قبر میں ایک شکاف پیدا ہوگی، جب لوگوں نے اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اس سرداپ کا مشاہدہ کیا جس میں آپ فن ہیں اور آپکے جد روتازہ پایا۔ یہ بخوبی تہران میں مشہور ہوئی اور فتح علی شاہ قاجار کے کاؤنٹک پہنچی تو بادشاہ نے کہا۔ میں اس کرامت کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، چنانچہ یہ علماء و وزراء، امراء اور ارکان دولت کی ایک جماعت کے ساتھ سرداپ میں پہنچا اور جسد مبارک کو دیساہی پایا جیسا لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا تھا۔ بادشاہ حکم دیا کہ اس قبر پر ایک پرکشہ عمارت تعمیر کی جائے، اور وہ مقام آج تک اس قبر پر ایک پرکشہ عمارت تعمیر کی جائے، اور وہ مقام آج تک ایک زیارت کا ہے۔ ابن بابویہ کی وفات ۸۴۳ھ میں ہوئی اور جس کا انکشاف ۸۴۳ھ میں ہوا اس بنابر وفات سے اس انکشاف تک آنٹہ سوچا جاس سال کی مدت لگ رہی تھی۔

خلاصہ یہ کہ عالم بزرخ ادیوت سے قیامت تک روح انسانی کے حالات پر اعتقاد وحی الہی کے تحت ہے جو قرآن مجید اور متواتر دوایات کے ذریعے رسول نجد اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ملائکہ، قیامت، صراط، میزان، بہشت اور دوزخ، سب ہر ایمان بالغیب ہے اور اس کا سبب بھی وحی الہی ہے۔

ہر طرح کے استبعاد اور شبہ کو رفع کرنے اور بزرخی ثواب و عقاب سے اس بنابر انکار کرنے والوں کے جواب کے لیے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ رو جیں ثواب و عقاب میں ہوں اور ہم ان سے بے خبر ہوئیں ہی اچھے اور بُرے خواب کافی ہیں، کیونکہ خواب میں گفتگو، آوانزیں اور جوش دخوش بھی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس پاس کے لوگ —

اس کے علاوہ جنگ احمد کے دو شہید عمر و بن جوح اور عبد اللہ بن عمرو کی قبریں بھی نہ کر کے دیستے میں رہی تھیں لہذا اُنکے جسم بھی باہر نکالے گئے درحالیکہ وہ بالکل تروتازہ تھے جلکہ ان کی شہادت اور دفن کے نمانے سے معاویہ کے دور تک چالیس سال گذر چکے تھے۔ چنانچہ ایک اور قبر تیار کر کے دونوں شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گی۔

کتاب روضات الجنات میں منقول ہے کہ بنداد کے بعض حکام نے جب دیکھا کہ لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں تو انہوں نے طے کیا کہ قبر مبارک کو کھود داڑاں، اور یہ کہا کہ تم قبر کو ٹھوٹے ہیں اگر جسم تازہ ہونا تو زیارت کی اجازت دیں گے ورنہ نہیں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ شیعہ اپنے علماء کے بارے میں بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں، اور ان کے قریب ہی شیعوں کے ایک بڑے عالم محمد بن یعقوب کلینی کی قبر بھی ہے لہذا بہتر ہو گا کہ شیعوں کے عقیدے کی صداقت معلوم کرنے کیلئے انھیں کی قبر کو کھوڈ کر دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ ان کی قبر کھود دی گئی اور ان کا جسم بالکل تازہ پایا گیا اور ان کے پہلو میں ایک بچہ کا جسد بھی ملا جو حکمن ہے انھیں کے فرزند کا ہو۔ بغداد کے حاکم نے حکم دیا کہ ان بزرگوار کی قبر تعمیر کر کے اس پر ایک شاندار قبر بنادیا جائے اور یہ مقام ایک زیارت گاہ کی صورت میں مشہور ہوا۔ اُسی کتاب میں شیخ صدق حمد ابن بابویہ علیہ الرحمہ کے کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی قبر شہر رے میں حضرت عبد العظیم کے قریب ہے اور خود ہمارے زمانے میں ان کی یہ کرامت ظاہر ہوئی جس کا بہت سے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ان بزرگوار کا جسد باقی ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل

نہیں سنتے اور یہ کہ کبھی کبھی عالم روپیا میں مر نے والوں کو بہتری اور خوشحالی یا سختی اور بدحالی کے عالم میں دیکھا جاتا ہے تو خواب دیکھنے والا اس کو واقعیہ اور حقیقت امر کی اطلاع قرار نہیں دی سکتا کیونکہ بہت سے خواب اضفاف و احلام، شیطانی، اور وہم کی پیداوار ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے مشچیدہ اور تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں جو مرد میں کی موجودہ حالت کے آئینہ دار ہوتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص کسی مرد سے کو خوشی اور راحت کی حالت میں دیکھتے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہمیشہ ہی اسی عالم میں رہتا ہے کیونکہ اس چیز کا احتمال ہے کہ مردہ اسوقت اپنی عبادات اور نیک کاموں کے اوقات کی مناسبت سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ تیکن وہی دوسرے وقت میں اپنے غلط اور ناجائز افعال کے اوقات کے لحاظ سے ان کی پاداش اور نزاں گرفتار ہو اسی طرح اس کے برعکس اگر میت کو سکرات اور بیماری کے عالم میں دیکھنے تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ متقل طور سے اسی حالت میں ہے اسیلے کہ ملکہ ہے وہ شخص گنہکاری کے ساعتوں کے برابر میں مصیبیں بھکت رہا اور اس کے بعد اپنے نیک اعمال کی ساعتوں کے عوض مسرت و آرام کے اوقات سے بہرہ مند ہو۔ "من یعلم مقابل خرث و خیر ایتھر و من یعلم مقابل خرث و مشر ایتھر" اس مطلب کو پیش کرنے کی عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مرنیوالے کو بری حالت میں دیکھتے تو یہوس نہ ہو اور یہ احتمال پیش نظر کے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اسے خوشحالی نصیب ہو، اور دعا، صدقہ اور اس کی نیابت میں اعمال صالح بجا لایا اس کی نجات کے لیے کوشش کرے

اور اگر مردے کو بہتر حال میں دیکھتے تو اس کا یقین نہ کرے کہ یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور اب یہ زندہ افراد کی دادرسی اور مرد سے بے نیاز ہو چکا ہے۔

اس طول کلام کی دوسری غرض یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ بزرخ میں ہماری سرگزشتیں بہت ہی کم کسی کے اوپر ظاہر ہوتی یا لیکے اور اگر غرض کر لیا جائے کہ معلوم بھی ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارے متعلقین ہمارے لیے دلسوzi اور ہمدردی کے انور انجام دیں گے؟ لہذا بہتر ہی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں خود اپنی ذکریں رہیں۔ یعنی اپنے گذشتہ اعمال کا یورے غور و خوض سے مطالع کریں اگر ہم سے کوئی واجب ترک ہو اسے تو اس کی تلافی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے اعمال صالح میں سعی و کوشش کریں۔ بالخصوص واجب اور مستحب نفقے ادا کریں اور سفر اختر کے ساز و سامان اور ضروریات پر توجہ رکھیں۔

"اللَّهُمَّ إِنِّي قُنْتُ لِلتَّحَاوِيْ عَنْ حَارِسِ الْغُرُوبِ وَ إِنِّي سَعَدَ أَدْلِسَمُوتٍ قَبْلَ حُلُولِ الْفُؤُوتِ"

### موت تعلقات کو قطع کر دیتی ہے

ایک اور اہم مطلب جسے جان لینا ضروری ہے یہ ہے کہ عالم بزرخ کی شخصیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرنے والا ان چیزوں یا انسانوں کی جدائی سے مضطرب اور بیچین ہوتا ہے جن سے دنیا میں دچپی اور محبت رکھتا تھا۔ مزید دضاحت کے طور پر اگر آدمی نے کسی چیز سے تعلق فاکر کر لیا ہے تو جس وقت اس سے جدا ہوتا ہے اسوقت تکلیف محصور

آنحضرت نے فرمایا، ہر عزت کے لیے ایک ذلت سے اور ہرزند کی کے بعد موت ہے، اور تم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کا ایک اجر اور عوض ہے؛ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس وقت جو کام کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اسیلے کہ تمام کاموں کا حساب ہو گا۔

### عالم برزخ میں صرف عمل تھارے ساتھ ہے۔

عالم برزخ میں جو چیز انسان کا ساتھ دیتی ہے وہ صرف عمل مالح ہے جو اس کے قریب رہتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور عمل بدھے تو اسکی دادرسی نہیں کرتا اور اس سے چھوڑتا بھی نہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”جو شخص موت کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے مال کی طرف رُخ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بچھ جمع کرنے میں بہت زحمیں اور مصیبتیں جھیلی ہیں۔“

مال جواب دیتا ہے کہ صرف ایک کھن کے علاوہ تم مجھ سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔ پھر اپنے فرزندوں کی جانب رُخ کرتا ہے تو وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف قبرتک تھارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اپنے عمل کی طرف رُخ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تھارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔

### واصبر حکم ربک فاندک بآعینتنا

یعنی صبر کرو اے پیغمبر اپنے پروردگار کے حکم کے لیے یقیناً تم ہماری نظر میں ہو۔ اس جگہ حکم سے مراد مشرکین کو مہلت دینا، پیغمبر کی طرف سے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور ان کی اذیت رسائی کو برداشت کرنا ہے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین کے آزار و اذیت پر صبر کرو، بلکہ یہ فرمایا، کہ خدا کے حکم پر صبر کرو باحالانکہ نتیجہ

کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کی زوجہ حسین و جمل تھی اور اس کو موت اگئی تو وہ اس کی جدائی سے کمرفت رکنا شر ہو گا۔ بعض اوقات تو اس قسم کے خواست بچھ لوگوں کو دیوانگی کھٹک پہنچا دیتی ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار شھ (خدا ان پر رحمت نازل فرمائے) ان کا بیس سال کا جوان فرزند میعادی بخار میں متلا ہوا اور اس پر نزرع کی حالت طاری ہو گئی جب باپ نے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو وضو کیا اور پوری توجہ کیسا تھ دعا کی کہ خداوند را! اگر تو میرے بیٹے کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے مجھے اٹھائے! ان کی دعا قبول ہو گئی۔ باپ کو موت اگئی اور بیٹا زندہ رہا۔ لیکن موت کے معنی، موت کیا چیز ہے؟ موت یعنی فراق۔ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ یہو یہوں اور دولت و شرودت کی جدائی میں اڑپتا ہے یہ چیز خود اپنی جگہ پر عالم برزخ کے مختلف عذاویں میں سے ایک ہے جس کا نام اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ حدیہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے کو افیون، تباکو نوشی، اور اخبار بینی وغیرہ کا عادی بنالیتا ہے لیکن برزخ میں اس طرح کے مشاغل موجود نہیں ہیں۔

مقصد یہ کہ انسان کو موت کے وقت ہر طرح کے علاقوں سے دست بردار ہونا چاہیے تاکہ عالم برزخ کے اندر ان کے فرقاً کو لاذیت برداشت نہ کرنا پڑے۔

قیس ابن عاصم بنی قحیم کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو آنحضرت سے ایک جامع اور مکمل موعظہ کے درخواست کی۔ (ضمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ قیس ایک بڑا عالم تھ اور قبول اسلام سے قبل حکماء میں شمار ہوتے تھے)۔

دُولوں کا ایک ہی تھا۔ لیکن سب اس کا یہ تھا کہ آنحضرت کیلئے صبران ہو جائے۔ پعنی چونکہ حضرت رسول خدا عبد مطلق اور محبت صادق تھے لہذا جب آپ کا معبوڈ آپ کو حکم دے کر ہمارے حکم پر صرگرو۔ یعنی جب میں ایسا حکم دے چکا ہوں کہ فی الحال شرکریں کو جہالت دیتا ہوں اور انھیں عذاب میں گرفتار نہیں کروں گا تو تم بھی دعوتِ اسلام سے دستبردار نہ ہو اور ان کی اذیت و آزار پر حمل سے کام لو اور استرجع اپ پر صبر آسان ہو جائے، خصوصاً باباعیناً کے فقرے کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ پغمبرِ خدا اپنے قرض تھا کہ تیتلاہ سال تک مکہ مظہر میں رہ کے رنج والم کا سامنا فرمائیں اور خدا کیلئے طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت فرمائیں یہاں تک کہ جنگ بدر میں دشمنوں سے انتقام یا جائے۔

اس یہے کہ اگر یہ طے کیا جاتا کہ خدا انھیں جہلت نہ دے اور حوصلانے والے جب ایذا پہنچا میں تو ہلاک کر دیے جائیں تو دعوت خداوندی بے نتیجہ ہو کرہ جاتی بلکہ یہ ضروری تھا کہ انھیں کافی مدت تک جہلت دی جائے تاک ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور جو لوگ کفر کے اوپر مصرا میں ان پر محبت تمام ہو جائے۔ اور تمام پیغمبروں کے بارے میں سنت الہی یہی رہی ہے۔ بلکہ گنہ گاروں کے بارے میں یہی دستور ہے کہ خدا انھیں جہلت دیتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں نفرین کی تو پورے چالیس سال کی مدت گذرنے کے بعد وہ ہلاک ہوا۔ خدا جہلت تو دیتا ہے لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کیلئے اس موقع اور جہلت

سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہ

## تمھاری روح عالم بزرخ میں رزق چاہتی ہے

اوّل اُس حقیقی جمال کیلئے اعتمام اور کوشش کرو جس کی اصلیت آل محمد صوات اللہ علیہم السَّلَامُ وَاٰلِہٖ وَسَلَامٍ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ میں سورج اور چاند نہ ہوں گے وہاں کوئی نور نہ چکے گا سوا جمالِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا اُس شخص کے جو محمدی بن جائے وہاں روح کا حسن و جمال ہو گا، بدن کا نہیں۔ اپنے اپری اس قدر ظلم نہ کرو اور اپنی روح سے غافل نہ ہو جسمانی آلام و آسائش کیلئے اسقدر وسائل فہیما ہیں تو اپنی قبر کر کیلئے بھی کوئی کام انجام دو! عالم بزرخ میں یہ یعنی نہیں بلکہ تمھاری روح رزق چاہتی ہے۔ لکھنے افسوس کی بات ہے اگر تمھارا بیاس آگ سے تیار ہو۔ تھے کاش تم دیکھتے کہ اگر کے ظالموں کو کسر طرح جکڑ دیا ہے یہ انھیں کی خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ اُتنی عذاب نے انھیں چاروں طرف سے گھیر کھا ہے۔

## اے دین کے حاجی بزرخی جنت میں آجا۔

ایمبارک" قیل ادخل الجنة" کے بارے میں چند مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی سے ہی پیغمبر وہ کا یہ حاجی قتل ہوا فوراً اس کی روح مقدوس

لہ کتاب قیامت و قران میں ۱۲۳ سے حد تک ۳۷ سورہ "سرا بیلہم من قطران و تغشی وجوہ هم الدنار" سورہ ابراہیم آیت ۵۵  
۳۷۔ کتاب نفس مطہرہ ص ۲۲۔

نہ اپنی کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ اور رحمت خداوندی کا یہ حکم پہنچا کہ بوستان الہی میں وارد ہو۔

البته یہاں آخرت اور قیامت کی جنت نہیں بلکہ برزخی جنت مراد ہے۔ برزخی جنت اس وقت سے جب آدمی کو موت آتی ہے قیامت تک ہے۔ جس وقت سے روح اور بدن کے درمیان جداگانی ہوتی ہے۔ برزخ شریعہ ہو جاتا ہے لہ

موت سے قیامت تک برزخ یعنی ایک درمیانی واسطہ ہے۔ زہ دنیا کے مثل ہے۔ اس کی کثافتوں کے ساتھ، ز آخرت کے مانند ہے اس کی لطفتوں کے ساتھ۔ یہ ایک درمیانی حد ہے۔ برزخ اس وقت بھی موجود ہے اور اسی عالم میں ہے لیکن اس کے پردہ غائب نہیں ہے۔ مادہ اور محسوسات سے پوشیدہ ہے یہ مادی جسم اسے دیکھ سکتا۔ تم خود غور کر کہ ہوا موجود ہے اور جسم مرتب بھی ہے لیکن آنکھ اسے نہیں دیکھتی اسی کے وہ لطیف ہے۔ یہ میری اور تھاری آنکھ کا نقش ہے کہ سوا مادے اور مادیات کے اور کسی شے کو نہیں دیکھ سکتی۔ البته اس جسم سے علیحدگی کے بعد برزخی اجسام بھی جو مادی نہیں ہیں قابل دید ہو جاتے ہیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہشت آخرت کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے وہ برزخی بہشت میں بھی ہے۔ چنانچہ روح کے جسم سے جدا ہوتے ہیں اسے بشارت دی جائی ہے کہ بہشت میں آجائیں! شہید تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور شہادت سے

لہ و من و رَأْهُمْ بِرَزْخَ الْيَوْمِ يَبْعَثُونَ سورة ۲۳ - آیت ۷۰

بالآخر کوئی نیکی نہیں ہے۔ لہ و سے  
”قیل ادخل الجنة قال یا یلت قومی یعلموں بما گفری  
من بی و یجعلنی من المکریین و ما انزلنا علی قومہ من بعدہ  
من جند من السماء و ما کنا منزليں ان کانت الا صیحة  
واحدة فاذاهم خامد ون“ (یعنی (جبیں تھار سے) کہا گیا  
کہ جنت میں داخل ہو جاؤ! اس وقت انھوں نے کہا، کہ میرے  
پروردگار نے مجھے جو بخشید یا اور مجھے بزرگ افراد میں سے قرار دیا  
ہے کاش اسے میری قوم والے بھی جان لیتے اور ہم نے آن کے بعد  
ان کی قوم پر نہ تو آسمان سے کوئی لٹکر اتارا اور نہ ہم (اتھی سی بات  
کے لیے کوئی لٹکر) اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک جیغ تھی پس  
وہ (چرا غریب طرح) بجھ کے رہ گئے۔ سورہ یسوس آیت ۲۶ (متترجم)  
مومن کے لیے اس کی موت سے قیامت تک برزخی جنت ہے

جب مومن آل یا سین کو اور پیغمبروں کے اس یار و مردگار کو  
قتل کیا گیا تو ان سے کہا کیا کہ بہشت میں آجائو۔ جب وہ داخل  
بہشت ہوئے تو کہا، کاش میری قوم یہ جانتی کہ میرے پروردگار  
نے مجھے بخشید ہے اور مجھے بلند مرتبہ لوگوں میں سے قرار دیا ہے  
در اصل پیغمبر اور خدا کی طرف دعوت دینے والے امتوں کے خیر خواہ  
ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ سوا ہمدردی کے اور کوئی غرض نہیں رکھتے

لہ خوق کل بیت رحیٰ یتھی الی القتل نی سبیل اللہ (سفينة البحار  
ج ۲ ص ۶۸۴) ن۳۔ کتاب قلب قرآن ص ۸۵،

بُر زَرْخٍ مِّنْ اَنْسَانٍ كَيْ حَالَتْ حَقِيقَتُكَ الْاِنْكَشَافَ هَهُ

آیت "یا حسرة علی العباد" کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ حقیقتاً انسان کی حالت بزرخ اور قیامت میں ظاہر ہو گئی کیونکہ جو کچھ یہاں پوشیدہ ہے وہاں اس کا انکشاف ہو جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے بغیر وہ اور تابعین کے ساتھ مسخر اور استہزاء کیا تھا: "دعاۃ اللہ" خلق خدا کو آخرت کی طرف دعوت دینے والے ان سے تمسخر کریں گے۔ جس وقت حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو کس قدر راسوں اور ندامت عارض ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ساری قیامت کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے، "لِيَوْمَ الْاِنْفَلَةِ" "لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ" ، "لِيَوْمِ الْوَاقِعَةِ"۔ قیامت میں دنیا کے دنوں کی طرح آفتاب نہ ہو گا لہ (زمیں محشر میں شمس و قمر نہ ہوں گے)۔

بزرخ میں جمالِ محمدی کے علاوہ کوئی نور نہ ہو گا۔

اس بنابر یوم کی تعبیر کیلئے ہے: "وَرَزِيعُنِي روشنی لیل یا شب کے مقابلے میں ہے جو تاریک ہوتی ہے۔ دنیا میں تاریکی ہے جو حقیقت پوشیدہ اور باطن کے اندر رچھی ہوتی ہے۔ حقائق اشکار نہیں ہیں موت کی ابتداء ہی سے کشف حقائق کے لیے حقیقی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ تلا اس دنیا میں تم حضرت علی علیہ السلام کو پہچاننے کی جتنی بھی کوشش کرو گے کامیاب نہ ہو گے اس لیے کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہیں۔

لِهِ (اذ الشَّمْسُ كُوَسْتَ - جَمِيع الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ)

لہذا چاہتے ہیں کہ یہ خلقت نجات پائے۔ اور سعادتمندی کی منزل پر فائز ہو۔ باوجود دیکھ لگوں نے انھیں مارا اور قتل کیا پھر بھی انھوں نے نفرین نہیں کی بلکہ دسویزی اور مہربانی ہی کرتے رہے اور ان کی یہی تنار ہی کہ کاشی یہ بے خبر ہوگے۔ انھوں نے ہماری تصحیحتوں کو قبول نہیں کیا بھیجھے لیتے ہیں نے کہا تھا کہ میرا مقصود بزرخی جنت ہے جو مومن کے لیے موت کے وقت سے روز قیامت تک ہے۔ اگر مومن ہوا اور کچھ گناہ بھی رکھتا ہو اور بغیر توبہ کے مرجائے تو اپنی عمر کی ساعتوں کے حساب سے بزرخ کے عذاب میں بھی رہنے کا اور ثواب میں بھی رہنے کا اسی بزرخ میں کہ آخر کار تصفیہ ہو جائے۔ سمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی بزرخ میں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جس وقت میدانِ حشر میں وارد ہو گا تو اس کے ذمے کوئی حساب نہ ہو گا۔ آیت "قَيْلَ ادْخَلَ الْجَنَّةَ" کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس مومن کے قتل کی خبر پہلے ہی سے دیدی جانا چلہتی تھی اس کے بعد یہ فرمایا جاتا کہ اس سے کہا گیا..... لیکن یہاں قتل کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس قول سے قبل انہیں آیات سے موت کا مفہوم حاصل ہو جاتا ہے و ما انزلنا علی قومه من بعده میں کلمہ "مِنْ بَعْدِهِ" من بعدہ... سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایسا ان کی موت کے بعد ہوا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ان کے قتل ہونے کا ذکر کیا جائے۔

"يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعَبَادِ مَا يَا تَيَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَانُوا بَهُ يَسْتَهْزِئُنَّ فِيْنَ الْمَرِيرِ وَكَمْ اهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرْوَنِ الْأَهْمَمُ الَّيْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ"

لیکن موت کے ساتھ ہی جب تھار کی بزرخی آنکھ کھل جاتی ہے تو  
حضرت علی علیہ السلام کی بلندی اور عظمت کا ایک حد تک اور اس کو سکتے  
ہو۔ خدا کا طاقتور ہاتھ، نیک بندوں پر خدا کی نعمت اور بُرے لوگوں  
پر خدا کا عذاب ہے۔ غرضکد ولادت کے وقت سے موت کی گھڑی تک  
رات ہے اور موت کے بعد کشف حقیقت کا دلن۔ حقیقت کا انکشاف  
ہونے دو! اسوقت بولوگ پیغمبر و کتاب استہرار کرتے تھے جب انکی بلندی  
اور بزرگی کا مشاہدہ کریں گے اور ان علماء، صاحبان عمل، اور ادیانے خدا  
کی رفتہ کو دیکھیں گے جنہیں دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔  
اور ان کا مذاق اڑاتے تھے تو ان پر کیا گذرے گی؟

### مرقد اور بزرخ کے بارے میں ایک نکتہ

لقطہ مرقد کے بارے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ مرقد اس مکان یعنی محل  
رقد یعنی محل خواب یا خوابگاہ ہے۔ قیامت کے روز لوگ قبروں سے  
اٹھنے کے بعد ہمیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا  
ہے؟ در حالیکہ وہ بزرخ میں عذاب جھیل رہے تھے۔ تھے جو شخص دنیا  
میں جاتا ہے اسے بزرخ میں ثواب و عقاب کا سامنا ہو گا ہے۔ یہاں تک  
کہ وہ اصلی بہشت یا اصلی جہنم میں پہنچ جائے جو گناہ وہ کر چکا ہے۔  
ان کا وہ جھیلتا ہے کتنے ہی ایسے ہیں جو اسی بزرخ میں پاک صاف

لے السلام علی نعمۃ اللہ علی الامبرار و نعمتہ علی الفجیسا۔ زیارت م  
حضرت امیر المؤمنین۔ ۲۰ و من در آنهم بزرخ اُنی یوم  
یبعثون۔ سورہ مومون ۲۳ آیت ۱۷۱۔

ہو جاتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں مرقد، حالانکہ وہ بزرخ میں تھے۔  
اس کا بوجواب دیا گیا ہے اور درست بھی ہے، یہ ہے کہتے ہیں  
جلد عوالم اپنی قوت اور ضعف کے پیش نظر بعینہا خواب اور بیداری  
کے مقابل ہیں۔ خاک کے اوپر زندگی بس کرنا عالم بزرخ کی مناسبت سے  
الیسا ہی ہے جیسے تم ہمارے ہو اور ہمارے چونکہ بزرخ  
کی قوت اختر دنیا سے بد رحمہ تیار ہے لہذا اس بُرگد ہمارے ہوں ہے یہاں  
جب موت آتی ہے تو جاگتے ہیں لہ یہ روایت امیر المؤمنین علیہ السلام  
سے ہے جو لوگ مرونوں سے متعلق تھے خواب دیکھ چکے ہیں وہ اس لذارش  
کی تصدیق کرتے ہیں کتاب داستانہائے شفاقت میں اس طرح کے  
کافی تھوڑے ذریعہ یہ اسی طرح حاجی فوری کی کتاب دار السلام میں  
بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔

### بزرخ کی نسبت سے قیامت خواب کے بعد بیداری ہے

چونکہ بزرخ کی نسبت سے قیامت خواب کے بعد بیداری ہے۔  
اس کی اصلی تاثیر بھی قیامت میں ہے۔ بزرخ میں ثواب ہو یا عقاب اپنی  
درمیانی حد میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہر چیز دنیا کے مقابلے میں بیداری ہے  
لیکن حیات بعد ازاں موت کے لحاظ سے خواب ہے۔ لہذا جب انسان  
قبر سے سراٹھا ہے کا تو کہے گا، کس نے مجھے بیدار کر دیا ہے؟۔ جب  
اس کی نظر جہنم کے بھر کتے ہوئے شعلوں پر بڑے گی جو بھاڑ کی طرح  
بلند ہو رہے ہوں گے۔ ایک طرف ملائکہ غلام اور شداد ساری مخلوق کو

حساب کے لیے حاضر کرنے پر مأمور ہوں گے، اور ایک طرف ایسے چہرے  
نظر آئیں گے جو سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ لہ  
ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی جن کی مثالیں بر زخ  
میں بھی موجود ہیں تھیں۔ یہ چیزیں اس طرح لرزہ براندام کردیں گے  
کہ سبھی لوگ زانوں کے جعل سرنگوں ہو جائیں گے تھے۔ اور کہیں کہ  
”س جت نفسی“ سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ کہیں کے  
”رب امتي“ یعنی خداوند امیری امانت کی فریاد کو پہنچا!

کسی کے پانوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ ہوگی، ہوں گی وجہ  
سے حاملہ عورتوں کے حل ساقطہ ہو جائیں گے۔ بچوں کو دودھ پلانیوالی  
عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشہ  
میں بے خود ہیں۔ لیکن وہ نشہ میں نہ ہوں گے البتہ عذاب خدا بہت  
سخت ہے تاہم ہم قیامت کے بارے میں ایسی خبریں سنتے ہیں کہ  
ہر چند بر زخ میں بھی عذاب ہو گا۔ لیکن یہاں وہ عذاب کیا چیز ہے؟  
چھوٹے ڈنک کے مقابلے میں مچھر کا ڈنک کیا حقیقت رکھتا ہے؟  
ہاں، یہ وہی سیفگیر کا وعدہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے اور پس فرمایا ہے  
عالم بر زخ میں لقا کے ارواح کا ثبوت

جناب آقا کے سبط نے نقل کیا ہے کہ مرحوم آقا سید ابو ہم شوشتري جواہر از

لہ وجہہ یومئذ علیہما غیرہ۔ سورہ عبس نہ۔ آیت من

لہ و تری سکل امۃ جاشید (سورہ الجاثیہ)  
کہ وتضع کل ذات حمل حملہا و تری الناس مسکاری و ماهمن  
مسکاری ولکن عَذَنَ ابَ اللَّهُ شَدِيدٌ سورہ حجہ ۷۷۔ آیت ع۴۔

کے ائمہ جماعت میں سے اور بہت محتاط و مقدس تھے اپنے عقد ازدواج  
کے بعد سخت پریشانی اور فقرہ و تمیضتی میں بنتا ہو گئے۔ یہاں تک کہ  
اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات پورے کرنے سے معذور ہو گئے  
جبور ہو کر پوشیدہ طور سے بخف اشرف چلے گئے اور شوشتہ کے ایک  
طالب علم کے پاس مدرس میں رہنچکے چند ماہ کے بعد شوشتہ سے ایک قابلہ  
آیا اور ان کو خبر دی کہ تمہارے گھروالے تمہارے بخف اشرف آنے سے  
مطلع ہو گئے ہیں اور اب تمہاری زوجہ، ماں باپ اور بھینیں یہاں آئیں۔  
یہ سن کے موضوع سخت پریشان ہو گئے کہ یہاں نہ انکے پاس نہ ہر انے کی  
چلکے ہے نہ مالی گنجائش، آخر کیا کریں؟ بہر طور جس طرح ممکن تھا ادھر ادھر  
لوگوں سے کسی خالی مکان کا سارا لگانا شروع کیا۔ لوگوں نے ایک  
دو کاندرا کا پتہ دیا کہ اس کے پاس ایک خالی مکان کہے کہ جی موجود ہے۔ یہ  
اُس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا۔ ہاں ہے تو لیکن وہ گھر نامبار کے میں اور  
جو شخص بھی اس میں مقیم ہوتا ہے پریشانی میں بنتا ہو کر موت کا شکار  
ہو جاتا ہے۔ رسید نے کہا۔ کوئی حرج نہیں ہے (اگر میں مر بھی جاؤں تو اس سے  
بہتر کیا ہے؟) اس فقرہ فلاکت کی زندگی سے جلد بخات مل جائے گی) چنانچہ  
مکان کی بھی حاصل کر کے اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر طرف  
مکڑی کے جائے لگے ہوتے ہیں اور سارا گھر کندگی اور کوڑے سے بھر ہوا  
ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں مددوں سے کسی کی سکونت نہیں رہی  
انہوں نے اسے صاف کر کے اس میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرا یا جب اس  
کو سوئے تو دنعتہ دیکھا کہ ایک عرب ایک بچھے قسم کا عقال (ایسا سر بند  
جو عمومی عربی عقالوں یا سر بندوں سے زیادہ سنتیں اور معزز ہوتا ہے)  
سر پر باندھے ہوئے آیا اور عصتی میں ان کے سینے پر جو ہدیثہ میٹھا اور کھا۔

سید! تم کیوں میرے گھر میں آئے ہیں اب میں تمہارا گلہ گھونٹ دوں گا  
سید نے جواب میں کہا، میں سید اور اولاد رسول ہوں اور میں نے کوئی  
خطاب بھی نہیں کی ہے۔ عرب نے کہا۔ یہ سب طھیک ہے لیکن تم نے میرے  
گھر میں کیوں قیام کیا؟ سید نے کہا، اب آپ جو کچھ بھی حکم دیں میں  
اپسہ عمل کر دیں گا۔ اور آپ سے بھی بہل رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔  
عرب نے کہا، بہتر ہے اب تھاہی کام یہ ہے کہ تھانے کے اندر جاؤ اور اسکو  
پاک صاف کرنے کے بعد اس میں رج کا جو پلاسٹر پہنہ اسے اکھاڑو ماں کے  
پیچ سے میری قیراظا ہو گی۔ اس کے کوڑے کر کرٹ کو باہر پھینک کے ہر شب  
ایک زیارت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی (غالباً زیارت امین الشیعیانی)  
تھی) پڑھو اور روزانہ فلاں مقدار میں (یہ مقدار ناقل کے ذہن سے نکل گئی تھی)  
قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اسوقت مکان میں رہنے کی اجازت ہو گی۔ سید کہتے  
ہیں میں نے اسی طریقے سے سردار فرش کو جو رنج سے بناہو اتحا اکھاڑا تو  
قبر نظر آئی میں نے سردار کو صاف کیا اور ہر شب زیارت امین الشیعیانی  
روز تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتا تھا۔ لیکن خانگی اخراجات کی طرف سے  
سخت مصیبت میں مبتلا تھا۔ یہاں تک کہ میں ایک روز روضہ اقدس  
کے صحن مطہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے جن کے متعلق بعد میں حلوم  
ہوا کہ وہ رشیخ خزنل سے والستہ رئیس الشیعیانی جاہی معروف بہ سردار اقدس  
تھے مخلود یکجا۔ حالات معلوم کیے اور گھر کے افراد کی تعداد کے مطابق  
ایک ایک غثائی لیرہ (ترکی کاسک) دیا اور ضروریات زندگی کے لحاظ  
کافی ماہو اور رقم معین کر کے اس کا قابل (سنند) لکھدیا چنانچہ اس سے میری  
معاشی حالت سدھ گئی۔ اور میں پورے طور پر آسودہ حال ہو گی  
یہ حکایت چند دیگر مذکورہ واقعات کی طرح عالم بزرخ میں روحوں کی

بقاء اور اس دنیا کے حالات دیکھیات سے آن کی آنکھا ہی برائی گواہ  
صادق ہے۔ اس حکایت سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ روحیں اپنے  
مقام دفن لئے اپنی قبروں سے کافی دلچسپی اور تعلق رکھتی ہیں۔ اس  
مطلوب کی توضیح یہ ہے کہ روحیں سالہاں اپنے جسموں کے ساتھ رہ پھری  
ہوتی ہیں۔ اُن کے دلیل سے مختلف کام انجام دیتی ہیں، علوم و معارف  
حمل کرتی ہیں، عبادتیں کرتی ہیں نیک اعمال بجالاتی ہیں اور اس کے جواب  
میں ان اجسام کی خدمتیں کرتی ہیں اور انکی تربیت اور تدبیر اور طرح  
طرح کے رنج و الم برداشت کرتی ہیں اسی بنابر تحقیقین کا قول ہے کہ نفس  
کا تعلق بدن کے ساتھ عاشق و معشوق کے درمیان تعلق اور اپلٹے کے مانند  
ہے۔ اسی لیے جو بھبھ وہ موت کے بعد بدن سے دور ہو جاتا ہے تو اس سے سکن  
قطع تعلق نہیں کرتا۔ اور جہاں اس کا بدن ہوتا ہے اس مقام پر خصوصی نظر  
اور توجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر دیکھتا ہے کہ اس مقام پر کوڑا اور خس و خاشاک  
ڈالا جا رہا ہے یا اس جگہ کنہا اور گندے کام ہو رہے ہیں تو وہ بہت رنجیدہ  
ہوتا ہے اور ایسے بُرے افعال کا ارتکاب کرنے والوں پر نفرین کرتا ہے  
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روحوں کی نفرین بہت اشتر رکھتی ہے جیسا کہ  
مذکورہ داستان میں بتایا گیا ہے جو لوگ اس گھر میں قیام کرتے تھے وہ کیسی  
کیسی پریشانیوں اور مصیبوں میں بنتا ہوتے تھے لیکن وہ اپنے خیال  
فارسہ میں یہی سمجھتے تھے کہ گھر منحوس و نامارک ہے۔ البتہ اگر کوئی  
شخص قبر کو پاک صاف رکھتا ہے اور اُس کے قریب تلاوت قرآن  
بیسے نیک اعمال بجالاتا ہے تو وہ (روحیں) خوش ہوتی ہیں اور اس کے  
نیئے دعاگر تھی ہیں جیسا کہ سید موصوف کے بارے میں بیان کیا گیا کہ  
زیارت اور تلاوت قرآن کی برکت سے اُس قبر کے نزدیک ان کیلئے

کسی فراغی اور فارغ البالی حاصل ہوتی۔ لہ  
بزرخ کے بارے میں امام موسیٰ کاظم کا ایک مجذہ

یہ واقعہ لائق غور و فکر ہے کتاب کشف الغمہ میں جو شیعوں کی معتبر تابوں  
میں سے ہے امام عقیم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کی کرامتوں کے سلسلے  
میں تکھڑتے ہیں، میں نے بزرگان عراق سے سنا ہے کہ عاسیٰ خلیفہ کا ایک بہت  
خاندان از ازاد تھا جو نوجا اور ملکی معاملات کی تنظیم و درستی میں کافی  
ماہرا و مستعد اور خلیفہ کا منظور نظر تھا۔ جب وہ ملائی خلیفہ نے اس کی خدمت  
گزاریوں کی تلاش کے لیے حکم دیا کہ اس کی میمت کو حرم امام عقیم کے اندر ضریح  
اقدس کے قریب فن کیا جائے حرم مطہر کا متولی جو ایک مر منتقی عبادت  
گزار اور حرم کا خادم تھا اس کو وہ واقع مطہر میں قیام کرتا تھا، چنانچہ اس نے  
خواب میں دیکھا کہ اس وزیر کی قبر تھا کافی ہو گئی ہے۔ اس میں سے اگر کے  
شعاع نکل رہے ہیں اور ایسا دھواں اٹھ رہا ہے جس سے جل ہوئی پڑی کی  
بدبو آرہی ہے یہاں تک کہ سارا حرم دھویں اور آگ سے بھر گیا۔ اس نے  
دیکھا کہ امام استادہ میں اور بلند آداز سے متولی کا نام لیکر فرمایا ہے میں کہ  
(خلیفہ کا نام لیکر) خلیفہ سے کہو کہ تم نے اس ظالم کو میرے قریب دفن کر کے  
مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ متولی کی آنکھ کھل گئی درحالیکہ وہ تھوڑ کی خدش  
سے لمزد رہا تھا۔ اس نے فوراً سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ کے خلیفہ کے  
پاس روانہ کیا۔ خلیفہ اسی رات بغداد سے کاظمین آیا، حرم کو لوگوں سے  
خالی کر کے حکم دیا کہ وزیر کی قبر کھودی جائے اور اس کے جسد کو باہر نکال کے

دوسرے مقام پر دفن کیا جائے چنانچہ جب خلیفہ کے رو برو قبر تھا کافتہ کی گئی تو  
اس کے اندر بزرگ جعلے ہوتے جسم کی خاکستہ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔  
**عالم بزرخ کے بارے میں چند سوالات**

علمائے اعلام اور سادات کرام کی ایک بزرگ شخصیت نے جو شاید  
ایمانام ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں نقل فرمایا ہے کہ ایک بار میں نے اپنے پدر  
علامہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کچھ سوالات کیے اور انھوں نے ان کے  
جوابات دیے۔

۱۔ میں نے پوچھا کہ جو رو میں عالم بزرخ کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں ان کا  
عذاب اور سختیاں کس طرح کی ہیں؟ انھوں نے فرمایا، چونکہ تم ابھی عالم دنیا  
میں ہو، لہذا مثال کے طور پر ہم بتایا جا سکتا ہے کہ جس طرح تم کسی کو ہرستان  
کے ایک درے کے اندر ہوا اور اس کے چاروں طرف اتنے بلند پہاڑ ہوں  
کہ کوئی شخص ان پر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہوا اور اس دلائل میں ایک  
بھی سر پر حملہ کر دے جس سے فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔

۲۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ میں نے دنیا میں آپ کے لیے جو اور خیر انہام دے  
ہیں وہ اپنے تک پہنچ یا نہیں؟ اور ہماری خیرات سے آپ کو کس قسم کے فوائد  
حاصل ہوتے ہیں و فرمایا کہ ہاں، وہ سب ہم تک پہنچ گئے۔ لیکن ان سے  
فائدہ اٹھانے کی کیفیت بھی تھا رے سامنے ایک مثال کے ذریعہ بیان  
کرتا ہوں جس وقت تم ایک ایسے چام کے اندر ہو جو بہت ہی گرم اور مجمع  
کے بھوم سے چھلک رہا ہو، ان تنفس کی کثرت، سخارات، اور حرارت  
کی درج سے تھیں سائنس لینا دشوار ہو جاتے ایسے عالم میں ایک کوشش نہیں  
چام کا در دانہ کھل جائے اور اس سے خوشکوار نیم سحری کا ٹھنڈا جھونکا

تمہارے پاس ہنچے تو تم کس قدر مست و راحت و آزادی محسوس کرو گے؟  
بس تمہاری خیرت دیکھنے کے بعد یہی کیفیت ہماری ہوتی ہے۔

۳۔ جب میں نے اپنے باپ کو صحیح و سالم اور نورانی صورت میں پایا اور  
دیکھا کہ صرف ان کے ہونٹ زخم ہیں اور ان سے پیپ اور خون رس رہا ہے  
تو میں نے ان محروم سے اس کا سبب دریافت کیا اور کہا کہ اگر مجھے کوئی  
ایسا عمل ہو سکتا ہو جس سے آپکے ہوشیوں کو فائدہ پہنچ سکتے تو میں تاکہ  
آسمانیں نے جواب میں فرمایا کہ اس کا علاج مرغ تمہاری علیہ  
ماں کے ہاتھ میں ہے کیوں کہ اس کا باعث فقط اس کی وہ اہانت ہے جو  
میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ چونکہ اس کا نام سکینہ ہے لہذا جب میں پکارتا تھا  
تو خانم سکون کیا کرتا تھا۔ اور وہ اس سے رنجیدہ خاطر ہوتی تھی اگر تم اسے مجھ سے  
راضی کر سکو تو فائدے کی امید ہے۔ محترم ناقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ  
صورت حال اپنی ماں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں،  
تمہارے باپ مجھکو پکارتے تھے تو میری تحریر کیلئے خانم سکون کہتے تھے  
جس سے میں سخت آزدہ خاطر اور رنجیدہ ہوتی تھی میکن اس کا اظہار  
نہیں کرتی تھی اور ان کے احترام کے پیش نظر کچھ کہتی نہیں تھی۔ اب جبکہ  
وہ زحمت میں بدلنا اور بہریث ان ہیں تو میں انہیں معاف کوئی ہوں اور  
ان سے راضی ہوں اور ان کے لیے یقین قلب سے دعا کرتی ہوں۔ اسے  
تین سوالات اور ان کے جوابات میں لیے مطالب پوشیدہ ہیں جن کا  
جاننا ضروری ہے اور میں محترم ناظرین کو متوجہ کرنے کیلئے مجھ پر طور پر  
ان کی یاد اور می کرتا ہوں۔

برزرخ میں نیک اعمال بہترین صورتوں میں  
عقلی اور نقلي دلیلوں سے ثابت اور سلسلہ ہے کہ آدمی موت سے فنا نہیں

ہوتا بلکہ اُس کی روح مادی اور خاکی بدن سے رہائی کے بعد ایک انتہائی  
لطیف قالب سے طحق ہو جاتی ہے اور وہ تمام اور اکات و احساسات جو اسے  
دنیا میں حاصل تھے جسے سenna، دیکھنا، خوشی اور غم وغیرہ اُس کے ساتھ رہتے  
ہیں بلکہ عالم دنیا سے زیادہ شدید اور قوی ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ جسم  
منشائی ممکن صفائی اور لطافت کا حامل ہوتا ہے لہذا مادی آنکھیں اسے  
نہیں دیکھتی ہیں۔ یعنی یہ کی چشم مادی کی طرف سے ہے کہ وہ ہوا جیسی چیزوں کو  
بھی جس کا جسم مرکب ہے لیکن چونکہ لطیف ہے نہیں دیکھ سکتی۔  
موت کے بعد سے قیامت تک آدمی کی روح کی اس حالت کو حالم شالی  
اور برزرخ کہتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان کے یہیچہ برزرخ  
ہے اُس دن تک جب وہ اٹھلے جائیں گے لئے اس مقام پر جس چیز  
کی یاد رہائی اور جس پر توجہ ضروری ہے یہ ہے کہ جو لوگ خوش نصیبی کے  
ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں وہ برزرخ میں اپنے تمام نیک اعمال اور  
اخلاق فاضلہ کا بھترین اور انتہائی خوبصورت شکلوں میں مشاہدہ کرتے  
ہیں اور ان سے فائدہ لٹھا کر شاد و سرور ہیں۔ اسی طرح بد بخت نفووس  
اپنے ناجائز افعال اپنی خیانتوں، گناہوں اور پریست و رذیل اخلاق کو  
بذریعن اور بہت ہی وحشتناک صورتوں میں دیکھتے ہیں اور آرنز و کر تے  
ہیں کہ ان سے دور رہیں۔ لیکن یہ ہونے والا نہیں جیسی کہ اُن برگوار  
مرحوم کے جواب میں ایک حملہ اور بھیڑی سے شبیہ دی گئی ہے جس سے  
فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔  
اسجا آیہ مبارکہ میں خور گرنے کی ضرورت ہے؟ جس روز ہر نفس اپنے

غريب امر کاملاً ہدہ کر رہا ہوں اپنی داہنی جانب چلنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ جنازے کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کشیری شال ہے۔ میں نے کہا کپڑے کے اوپر کچھ اور دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ یہی سوال میں نے اپنی بائیں طرف والے سے بھل کیا اور یہی جواب مل تو میں نے سمجھ لیا کہ سوامیرے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم صحن مبارک کے دروازے تک پہنچ جو وہ کتنا جنازے سے الگ ہو گیا۔ یہاں تک کہ جنازے کو حرم مطہر اور صحن مبارک سے باہر لاتے تو میں نے پھر اس کو جنازے کے ساتھ پایا۔ میں اُس کے ساتھ قبرستان تک گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے غسل خانے اور تمام حالات میں کتنے کو جنازے سے منفصل پایا۔ یہاں تک کہ جب میت کو دفن کیا گیا تو وہ کتنا بھی اُسی قبر میں میری نظر سے او جھل ہو گیا۔

برزخ میں آدمی کے کردار مناسب حال صورتوں میں اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ قاضی سعید قمی نے اپنی کتاب "ابعینات" میں استاد کل شیخ بہائی اعلیٰ اللہ مقامہ سے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاجان معرفت و بصیرت میں سے ایک شخص اصفہان کے ایک مقبرے میں مجاور تھے۔ ایک روز جناب شیخ بہائی علیہ الرحمۃ ان کی ملاقات کو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے گذشتہ روز اسی قبرستان میں چند عجیب و غریب امور مشاہدہ کیے ہیں نے دیکھا کہ ایک جماعت ایک جنازہ لیکے آئی اور اسے نڈاں مقام پر دفن کر کے جلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت لفیض خوشبو میرے شام میں پہنچی جو دنیا دی خوشبوؤں میں سے نہیں تھی، میں تھیر ہوا اور یہ علوم کرنے کیلئے کو خوشبو کیاں سے آ رہی ہے۔ چاروں طرف نظر

اعمال نیک کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور اپنے برے افعال کے بارے میں آرزو کرے گا۔ کہ کاش اُس کے اور ان (اعمال بد) کے درمیان ملبہ فاصلہ ہوتا اور خدا تمھیں اپنے عقاب سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ہر بار ہے۔ لہ یہ بھی اس کی دھرم ربانی ہے کہ اس نے دنیا چیزیں خطرے کا اعلان فرمادیا تاکہ لوگ عالم آخرت میں فشار اور سختیوں میں گرفتار ہونے سے بچیں۔

## جنازے کے اوپر ایک کتا۔ برزخی صورت

سون و متقی اور صاحب ایمان بزرگ مرحوم داکٹر احمد احسان نے جو برسوں کر بلائے محلى میں مقیم رہے اور اپنی عمر کے آخری چند سال قم کے مجاور رہے اور وہیں ان کا انتقال اور دفن کیفیت ہوا۔ لقپ بیان اپنیں سال قبل کر بلائیں بیان فرمایا کہ میں نے ایک روز ایک جنازہ دیکھا جسے مجھے لوگ بترا کے اور زیارت کے قصد سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے حرم مطہرہ کی طرف یہے جا رہے تھے میں بھی مشایعت کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ دفعہ تین نے دیکھا کہ تابوت کے اوپر ایک خوفناک سیاہ کتا بیٹھا ہوا ہے میں حیرت زدہ ہو گیا اور یہ جانشی کیلئے کہ دوسرا کوئی شخص بھی اسکو دیکھ رہا ہے یا تنہا میں ہی اس عجیب و

لہ۔ یوں تجد کل نفس ماعملت من خیر محضر او ما عملت من سوء توّلوا نت بینها امد العید او یعنی دکم اللہ نفسہ والله رَأْوَفُ بِالْعِبَادِ سورہ ۳۲، آیت ۳۵۔  
لہ۔ کتاب داستانہائے شکفت ص ۱۲۳ تا ۱۴۳،

میر دیکھے اندھے گا۔ اور سقدر شرمندہ ہو گا کہ اس چیز کی آرزو کرے گا کہ اسے جلد از صدد و فرش میں ڈال دیا جائے تاکہ اس خجالت کی مصیبت سے بہائی مل جائے۔

اس سیلے میں دایتوں کے اندر دیکھ گئی تعبیر میں بھی ملتی ہیں۔ مجملہ انکے ہے، جس وقت آدمی قبر سے سر اٹھائے گا اور جب حقایق منکشف ہو جائیں گے تو شخص سمجھ لے گا کہ اس نے اپنے مولا اور مالک کے روبرو کیا کیا ہے اور کیا کیا ہے۔ اُسوقت اسقدر عرق نہامت جاری ہو گا کہ اسکے بعد کا ایک حصہ اسی پیسے میں ڈوب جائیگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے کوئی نماز (ظہر، عصر، مغرب، غشاء، اور صبح) کا وقت ایسا نہیں ہے جس میں ایک فرشتہ نداہ کرتا ہو کر، اے لوگو! اے مسلمو! الحمد لله ان آگ کے شعلوں کی طرف جھینیں تم نے خود اپنے لیے بھڑ کایا ہے۔ پس اُنکو اپنی نماز سے خاموش کرو۔ سلہ و سے

دنیا ہمارے یہے سزادار نہیں ہے۔ دنیا میں غذی سے آزادی ظاہر کے اور جلد گزر جانیوالی آزادی ہے، خدا کرے حقیقی اور واقعی آزادی نصیب ہو، حقیقی آزادی عناب سے رہائی ہے، کاش آدمی صراط سے آسانی کے ساتھ گذر جائے، خدا اینا لطف ذکر م شامل حال فرمائے، اپنے بندے کو یاد فرمائے اور اسے برث کی طرح صراط سے گذار دے۔ ہاں، "فاذ کرو فی اذکر کم" تم مجھے دنیا میں یاد کرو، تاکہ میں بھی تمھیں قبر میں، برزخ میں، صراط میں، میزان میں، غرض کہ قیامت میں یاد رکھوں

دوڑائی۔ ناگاہ ایک بہت حسین و جیل صورت شاہانہ انداز میں نظر آئی، میکھا کہ وہ اس قبر کے قریب گئی اور پھر میری نگاہوں سے اچھی ہو گئی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دفعتہ ایک گندی بدبو جو ہر بدو سے فریادہ گندی اور ناگوار تھی میرے مشام میں پہنچ گئی۔ جب دیکھا تو ایک کتا نظر آیا جو اسی قبر کی طرف جا رہا تھا اور پھر قبر کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس منظر سے حیرت اور تعجب میں تھا ہری کہ اس سے خوبصورت جوان کو اسی راستے سے بدحالی اور بدمعیتی کے ساتھ زخمی حالت میں واپس ہوتے ہوئے دیکھ دیں تھے اس کا تعاقب کیا اور اس کے پاس پہنچنے کی حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے کہا، میں اس میت کا عمل صالح ہوں اور مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کے ساتھ رہوں، ناگاہ وہ کتا جسم نے ابھی دیکھا ہے آگیا، اور وہ اس کا عمل بد تھا۔ چونکہ مر نیوالے کے بڑے افعان زیادہ تھے لہذا وہ مجھے پر غالب آگیا اور مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنچا دیا۔ اب مجھے باہر نکال دینے کے بعد اس میت کیساتھ وہی کتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ یہ مکاشفہ درست ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں آدمی کے اعمال انھیں سے مناسبت رکھنے والی صورتوں میں اس نے ساتھ رہیں گے۔ اور اعمال کا جسم ہونا اور مرنے والے کے حالات سے مناسبت رکھنے والی شکلوں میں مشکل ہونا مسلم ہے۔ چنانچہ بزرگان ملت نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جب پرده ہیئت جائیگا اور حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی تو انسان اپنے معاملات کو ان کی صحیح نوعیت

خدا کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے  
خدا اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیتا ہے کہ جو لوگ ہماری آئتوں پر ایمان  
لائے ہیں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انھیں سلام کہو ٹہے  
قبرا در برزخ کی کرشادگی۔ الہی تلا فی

اگر تمہارا دل جاتا ہے کہ تمہاری قبر کرشادہ ہو جائے تو اپنے مومن بھائی کے  
حالات کا لحاظ اور رعایت کر وحدائے تعالیٰ بعض افراد کی قبروں کو اتنی وسعت  
عطای رہتا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے "من البصُّ" وہاں تک  
انیں فراغی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی برزخ میں انکی جائے قیام حد نکاہ مک  
و سیع ہوتی ہے "یفسح اللہ لکم" یعنی خدا تمہیں وسعت عطا فرائے  
قیامت میں، صراط میں، اور بہشت میں۔ بہر حال یفسح سے متعلق زیادہ  
تفصیل مذکور نہیں ہے کیونکہ اس کی کیفیت اشخاص کی نیتوں اور ہمتوں  
کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ۳۷

اگر تم برزخ کی ظلمتوں میں گرفتار ہوئے تو فریاد کریں گے  
اگر تم برزخ کی ظلمتوں میں گرفتار بھی ہونجے تو نالہ دفریاد کریں گے کہ خدا نہ!

لَهُ هُوَ اللَّهُ أَنَّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ  
الْمُؤْمِنُ الْمَصْبِحُونُ ..... ۳۸ وَإِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِأَيَّاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ اللَّهُ مِنْ لِنْسِهِ الرَّحْمَةُ

سورہ الفاطمہ آیت ۳۸ ص ۵۲۴، سورہ حشر آیت ۳۳،  
۳۹ کتاب راز گوئی و قرآن ص ۹۶ و ۱۲۶

اگرچہ ہم نہیں کاربیں میکن حضرت علی علیہ السلام کے چاہئے والے ہیں اگر ہم جہنم  
کے کسی گوشے میں ڈال بھی دیتے گے تو بقول امام زین العابدین علیہ السلام ہل جہنم  
کو بتائیں گے کہ ہم تجھے ایعنی خدا کو دوست رکھتے ہیں لہ تیرے دوستوں کو  
دوست رکھتے ہیں، اور حسینؑ کو دوست رکھتے ہیں۔

روایت میں بھی وارد ہے کہ ایسے اشخاص ملائکہ سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ  
علیہ والہ وسلم کو ہماراً اسلام پہنچا داد را حضرت کو ہمارے حال سے آگاہ کر دو

### امام حسینؑ کی عزت برزخ اور قیامت میں ظاہر ہو گی

عزت اسی شخص کی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے ہو جائے۔ روایت کے مطابق  
عیین بن کعب کہتا ہے کہ میں حضرت رسولؐ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو  
دیکھا کہ حسینؑ غریب آپ کے دامن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انھیں سوننکے  
رہتے ہیں اور بوسے دے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ کیا آپ  
حسینؑ کو بہت دوست رکھتے ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا، (ضمون روایت  
مبارکہ) آسمان دلے حسینؑ کو زمین والوں سے زیادہ دوست رکھتے ہیں  
درحقیقت زمین والے انکی عظمت سے آگاہ نہیں ہیں۔ برزخ اور  
قیامت میں حسینؑ کی شان اور عظمت آشکار ہو گی، حسینؑ کی عزت اور  
حکومت، حسینؑ اور دیگر ائمہ کا ارادہ اور سلطنت وہیں ظاہر ہو گی۔

ذلت نہ یاد، یخیر دالوں اور ہر کافر و ملک کا حصہ ہے ۳۹ اے انسان تو فانی  
نہیں ہے، جیوان اور بیات کے مانند نہیں ہے کہ تیری زندگی کا حصکانا

لہ لاخبرن اهل النار بھجی لدھ۔ دعاۓ ابو حمزہ شعائی  
۳۹۔ کتاب دلایت ص ۱۴۵ و ۱۴۶

موت ہو۔ تیرا بدن بنظاہر فنا ہو جاتا ہے لیکن تیری روح باقی بقاہ اندھے  
جو شخص مرتا ہے اسکی موت کے وقت سے عالم بزرخ یعنی اس دنیا اور  
قیامت کے درمیان ایک واسطہ ہے جو قیامت سے متصل ہے۔ اسلام  
کی ایک اہم تعلیم آدمی کی شان کو بچپنوانا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ خودا پنے  
کو بچانے بودیگر تمام موجودات سے جدا گاہ اور رب العالمین کی بخشش  
دکرامت کی منزل ہے بلہ خداوند عالم انسان کی ہستی پر لطف عنایت فرماتا  
ہے، ہر چیز آدمی پر قربان ہے اور ہر یہی غرض آفرینش ہے۔ قرآن مجید  
نے اس مطلب کی بار بار صراحت کی ہے۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے کہتے  
لیلسف انداز میں کہلائے کہ (ترجمہ)  
اے داؤ اسوامکان کے مرکز، اے عالم کون دمکان کے جو ہر!  
تو جاہر ناسوتی کا بادشاہ ہے، قومظاہر ہوئی کا آتاب ہے۔  
سکردوں فرشتے تیرے یہ یحیم برآہیں۔ تو یوسف صرف ہے چاہ سے باہر آجَا۔  
تاکہ ملک وجود کا حکمران ہو جائے، اور رخت وجود کا سلطان بن جائے ۲

## بَرْزَخٌ، وَسِعُّ تَرَزُّنَدَكَ كَاعَالَم

قرآن مجید نے حیات انسانی کو ایک بلند ترا درستقل زندگی قازیا  
ہے اس موت کے بعد عالم بزرخ ہے۔ بزرخ واسطے کے معنی میں ہے  
یعنی ایک ایسا عالم جو عالم مادی اور عالم آخرت کے درمیان ہے جس وقت

لَهُ وَلَقَدْ كَسَرَ مَنَابَنِي أَدْمَر۔ سُورَةُ اسْرَاءُ آيَتُ ۴۷

۳۰۔ کتاب دلایت ص ۲۰۵

۳۰۔ جوں و رَأْلَهُمْ بِرَزْخٍ إِلَى يَوْمٍ يَعْثُونَ۔ سُورَةُ مُونَّونَ۔ آيَتُ ۶۷۱

روح اس قاب سے جدا ہوتی ہے تو ایک درسر کے عالم میں داخل ہوتی ہے۔ سورہ  
تبارک کے آغاز میں ارشاد خداوندی ہے کہ، ”وَهُوَ خَدَاجِنْ نَے موت اور  
حیات کو پسیدا کیا ہے؟“ ۳۰

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آیت میں تاویل کی کوشش کریں۔  
(اور جنکو قدر کے معنی میں لیں اور کہیں کہ خدا نے موت اور زندگی کو مقدر  
فرمایا ہے) موت کوئی امر عدمی نہیں بلکہ امر وجودی ہے، یعنی آدمی کی روح  
کا تکامل یعنی ماڈی قاب سے روح کی رہائی، یعنی نفس جسم سے جان کی آزادی  
اور عالم مادی کی قید و بند سے خلاصی، یعنی انسان کی تکیل اور اس کا اعمال  
کے نتیجے تک پہنچنا۔ ۳۰

## عَالَمُ بِرْزَخٍ مِّنْ مُؤْمِنِينَ كَعَوْدَ كَاحْشَنَ

دو بزرگ عالموں کے حالات میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں  
قول و تواریخ تھا کہ تم دنوں میں سے جو شخص پہلے دنیا سے جائے وہ عالم بزرخ  
میں اپنے حالات سے دوسروے کو خواب میں مطلع کرے۔ جب انہیں سے  
یہ کہ انتقال ہوا تو ایک مدت کے بعد وہ اپنے رفیق کے خواب میں  
آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے اتنے دنوں تک یکمیوں مجھے یاد نہیں کیا؟ انہوں  
نے جواب دیا کہ، یہاں ہم لوگ ایک بڑا جشن منا رہے تھے جس میں میسے  
صرف رہا۔ انہوں نے کہا جشن کسی یعنی تو جواب ملا، کیا تمھیں معلوم نہیں  
ہے کہ شیع الصاری دنیا سے رحلت کر کے یہاں آئے ہیں لہذا یہاں چالیں  
شب و روز کا جشن ہے

۳۰۔ اللَّهُمَّ خُلِّنَّ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ..... سُورَةُ مُلَكٍ آيَتُ ۴۷  
۳۰۔ کتاب دلایت ص ۲۱۳،

## عذاب بزرخ مقدار گناہ کے مطابق

فیومئن لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان، فباید الائمه  
رتکما تکن بان، یعرف المجنون بسیا هم فیو خذ بالتو اصلی  
والاقد آم، فباید الائمه رتکما تکن بان (لا بشئی من الا نک  
رب اکن ب). (یعنی اس روز ز کسی انسان سے اس کے گناہ کے  
بارے میں پوچھا جائیکا ت کسی جن سے۔ قوم دونوں اپنے مالک کی کس کس  
نحوں کو جھضلاؤ کے ہ گنہ کار لوک تو اپنے بھردوں ہی سے پوچھا جائیں  
گے۔ بس وہ پیش انیوں اور پانوں سے پکڑ دیے جائیں گے۔ اور جہنم میں  
ڈال دیے جائیں گے)، آخر تم دونوں اپنے بد و دگار کی کس کس نعمت سے  
انکار کر دے گے ہ۔ مترجم)۔ ان آیات مبارکہ میں لفتگو یہ ہے کہ رفع  
تناقض یا تعدد مکاں کی صورت میں ہے کہ پہلے موقف میں کسی سے  
ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اسیلے کہ دہ دہشت  
اور دہشت کاموقف ہوتا ہے۔ اور سوال و حساب کاموقف اس کے  
بعد آتا ہے۔ یا تناقض رفع کرنے کی دوسری صورت اشخاص کے  
تعدد میں ہے کہ روز قیامت شیعوں سے ان کے گناہوں کی باز پرس  
نہ ہوئی یکونکہ وہ تو یہ کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ یا بزرخ میں اپنے  
گناہ کی مقدار کے مطابق عذاب جھیل چکے ہیں۔ اور اس موضوع میں  
متعدد روایتیں منقول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہو گا کہ گناہ کیسا ہے؟ بعض  
گناہ مکن ہے ایک سال تک اور بعض ایک چھٹی ہزار سال تک حساب کی  
معطلی کے باعث ہوں۔ یا مشلاً حق انساں ہو کہ واقعاً اس سے ذرا نا  
چلہتے۔ اس کی مناسبت سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔

## حق انس کیسلے بزرخ میں ایک سال کی سختی

مرحوم حاجی نوری نے دارالشام میں اصفہان کے ایک بزرگ عالم جامی  
سید محمد صاحب مرحوم سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا، میں اپنے باپ  
کی دفات کے ایک سال بعد ایک رات انھیں خواب میں دیکھا اور ان  
سے حال دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ، میں اب تک گرفتار تھا لیکن اب  
آرام سے ہوں میں نے تحب کے ساتھ سوچا کہ آب کی گرفتاری کا سبب  
کیا تھا؟ تو فرمایا کہ میں مشہدی رضا سقا کے اٹھاڑہ قرآن دیران کا  
ایک سابق چھوٹا سکہ جسے اب ریال کہتے ہیں) کا مقر وض تحا لیکن انکے  
ادائیگی کی وصیت کرنا بھول گیا تھا لہذا جس وقت سے مجھ کو موت  
آئی ہے اب تک مصیبت میں گرفتار تھا، میکن ملک مشہدی رضا نے  
مجھے معاف کر دیا ہے اس وجہ سے اب راحت میں ہوں۔

جانب سید محمد نے یہ خواب دیکھنے کے بعد بخفف اشرف سے صفا کی  
میں اپنے بھائیوں کو بھاکہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اس کی تحقیق  
کرد اگر بیراپ کسی کا قرضدار ہے تو اسے ادا کر دو! چنانچہ انھوں نے  
سقا کے مذکور شکو تلاش کر کے اس سے صورت حال دریافت کی، اس نے  
کہا، ہاں، میرے اٹھاڑہ قرآن ان کے ذمے دا جب الادا تھے میکن  
مرحوم کی وفات کے بعد میرے پاس اس کی کوئی سند نہیں تھی۔ لہذا  
مطالبہ نہیں کیا کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ نہ ہوتا یہاں تک کہ اسی طرح  
ایک سال گذر گیا تو میں نے سوچا کہ باوجود یہ کہ سید نے یہ کوتا ہی  
کی کہ مجھے سند نہیں دی اور وصیت بھی نہیں کی میکن میں انکے  
حد کی خاطر انھیں معاف کرتا ہوں تاکہ وہ اذیت میں مبتلا نہ رہیں۔  
اُن مرحوم کے فرزندوں نے وہ اٹھاڑہ قرآن ادا کرنے کی کوشش

کی سیکن مشہدی رضانے قبول نہیں کیا اور کہا کہ جو چیز میں معاف  
گر چکا ہوں اُسے نہیں لے سکت۔  
غرض یہ کہ بر زخ کی معطلی گناہ اور حق انسان کی نوعیت سے  
وابستہ ہے سیکن بہر حال شیعان علیؑ بر زخ میں پاک ہو جاتے  
ہیں اللہ

### شام شد

باد اول

اپریل ۱۹۹۳ء

باد دوم

اپریل ۱۹۹۳ء

باد سوم

سپتember ۱۹۹۴ء

: مطبوعہ :-

اے بی سی آفٹ پریس - دہلی

## عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين على اهلهما

حمد لله رب قبل پروردگار عالم اور عبادیات دلی عصرِ عجل اللہ تعالیٰ فرج  
الشريف نصیحت و عبرت سے پر کتاب "عالم بر زخ" تحریر بارہ یوں طباعت  
سے آئے استہ ہوئی ہے جو اس کی انتہائی مقبولیت کی دلیل ہے شہید حرب  
آئیۃ اللہ درستخفیہ کی دیگر کتابیں بھی اسی طرح سے انتہائی مفید ہیں جن  
میں سے متعدد کتابوں کے تصحیح خود ادارہ اصلاح سے شائع پوچھئے ہیں  
ہمارے سامنے ہیئت سی کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ ہے وسائل کی تحریک  
دہم سے آئے ہستہ اہستہ یہ سلسلہ اشاعت جاری ہے۔ یہاں اہم ہے کہ غیری  
امداد اور موئین کے تعداد سے انشاۃ اللہ کام کی رفتار میں اضافہ ہوتا  
جائے گا۔ بیشتر تو انکی ادروقت "امانہ اصلاح" کی اشاعت پر صرف  
ہو جاتا ہے۔

والسلام

سید محمد جابر جو راسی  
مدمر امانہ اصلاح لکھنؤ  
یکم جادی الاولی ۱۳۵۳ھ مشہدا دت حینی

## فہرست مضمون

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	عرضی مترجم		عرضی مترجم
۱	حقوق ادالہ کو نے پر عدای برزخ	۲	حقۃ الاسلام سید محمد اسمد مستغب
۲	دو گناہ بوزرخ میں تو فاری کا باعث ہیں	۳	حقوق ادالہ کو نے پر عدای برزخ
۳	شیخ کے قول کے مطابق یعنی حقوق	۴	عالم کی ایامت اور اس کی سخت عقوبات
۴	تین ہزار سال تک بچونکھے کے بعد آتشی دوزخ	۵	موت کے وقت ہمسایوں سے معافی چاہنا
۵	ز قوم منظل سے بھی زیادہ تنخ	۶	حضرت علی علیہ السلام اور یہودی کی یہ سفری کا لامعا
۶	کھوتا ہوا پانی جو چہرے کے گاشت کو گلا دیتا ہے	۷	ظاہر صراط میں اور جہنم کے اپر
۷	مومنین یقین کرتے ہیں	۸	صراط جہنم کے اور ایک پل
۸	دو چھوٹ کا باس اگ کا ہو گا	۹	تین ہزار سال صراط کے اور
۹	خوف آتش سے حضرت علی علیہ السلام کے نالے	۱۰	صراط میں عقامہ اور اعمال کا نور
۱۰	قدا ب جہنم کے چڑنے کے	۱۱	یہ طویل راستہ بغیر فر کے کیوں کر طے ہو گا
۱۱	دوزخوں کے سر پر جہنم کے گز	۱۲	صراط بھی شعور دھتی ہے
۱۲	اہل سلم جہنم میں ہنسیں جائیں گے	۱۳	
۱۳	ان کے دلوں کی طرح ان کے سخت اجسام	۱۴	
۱۴	آخرت میں باطن کا غلبہ ظاء بری صورت پر	۱۵	

صفحہ	مضمون	صفحہ
۱۵	و خشتا ک اور سختے خواب	
۱۶	کون ساری کوئی صراط پرست قم ہے؟	
۱۷	تشخیص بال سے زیادہ باریک اور عمل توار سے زیادہ تمیز	
۱۸	شفع کو جہنم سے صدمہ پہونچنے کا	
۱۹	آخرت کے مطابق نصیر کے قابل ہیں	
۲۰	آتش جہنم مومن کی دعا پر ایک نعمت ہے	
۲۱	جہنم کہتا ہے ابھی میسکے پاس جگہ ہے	
۲۲	دوزخ میں عذاب کے درجے مختلف ہیں	
۲۳	تین ہزار سال تک بچونکھے کے بعد آتشی دوزخ	
۲۴	ز قوم منظل سے بھی زیادہ تنخ	
۲۵	کھوتا ہوا پانی جو چہرے کے گاشت کو گلا دیتا ہے	
۲۶	دو چھوٹ کا باس اگ کا ہو گا	
۲۷	خوف آتش سے حضرت علی علیہ السلام کے نالے	
۲۸	قدا ب جہنم کے چڑنے کے	
۲۹	دوزخوں کے سر پر جہنم کے گز	
۳۰	اہل سلم جہنم میں ہنسیں جائیں گے	
۳۱	ان کے دلوں کی طرح ان کے سخت اجسام	
۳۲	آخرت میں باطن کا غلبہ ظاء بری صورت پر	

# مفید کتابیں

مفید و کار آمد، دلچسپ و سبق آموز معلوماتی یہ کتابیں  
ادارہ اصلاح میں دستیاب ہیں تاجر ان کتب کے لئے علیت

- |  |      |
|--|------|
| سیرت فاطمة الزهراء - جلس سلطان مزاد پوی مر جم (دوسرا اڈشنا)        | 35/- |
| پٹخے واقعات - آیت اللہ متفیع شہیدؒ ترجمہ مولانا محمد باقر جوہر اسی | 35/- |
| عالیم بر زرخ " " " " " (یسری اڈشنا)                                | 20/- |
| امام قائم العلام " " " " " (یسری اڈشنا)                            | 30/- |
| حیرت انگیز واقعات " " " " " (یسری اڈشنا)                           | 45/- |
| عبد صلاح - (ختصر حیات امام موسیٰ کاظمؑ) مدیر اصلاح                 | 5/-  |
| انتخاب رہبر کابل - مولفہ رحمت علی مر جم (اقوال امیر المؤمنینؑ)     | 5/-  |
| ایران و عراق کا عظیم سفر - مولانا محمد داؤد المولی                 | 20/- |
| عقیدت کے پھول - (قصائد) " " " " " (یہی جلد)                        | 15/- |
| اسلام میں نادی کے ادھیکار (ہندی) آیت اللہ مطہریؒ (یہی جلد)         | 15/- |

ان کے علاوہ دیگر کتابیں اور، ماہنامہ اصلاح بھی اس ادارہ سے حاصل  
کریں۔ سال میں دو خصوصی شماروں کے ساتھ راجحیتی جنتی ۱۲ گرام نمبر۔  
(ملنے کا پتہ)

فون ۲۴۱۹۵۳

ادارہ اصلاح مسجد دیوان ناصیحی ترضی حسین روڈ رکھنو،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# عالیٰ میر بشر مند خ

ترجمہ "کتاب بُرزخ" مؤلف شہید حرب  
آیت اللہ سید عبد الحسین وستغیب طالب شریعہ

ال الحاج مولانا شید محمد باقر باقری جو راسی مظلہ  
نگران اصلاح

مسجد دیوان ناصر علی مرتضی حسین روڈ لکھنؤ ۳۲۴۰۰  
فونٹ:- ۲۶۱۹۶

باہتمام:- عباس بیگ اچنی درگاہ حضرت عمار کشمکش نگر لکھنؤ

فونٹ:- ۲۶۰۵۶  
قیمت:- ۲۵